

Directorate of Elementary & Secondary
Education Government of Khyber Pakhtunkhwa

NTS GUIDE FOR TEACHERS

SCREENING TEST Guide

NTS

for Secondary School Teachers (SST) General (BPS-16)

INCLUDES:

1.English Synonym
2.Islamiat
3.Pak Study
4.Urdu
5.Science
6.Padagogy
MCQS Type

ختم نبوت ﷺ زندہ باد | عظمت صحابہ زندہ باد

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ:

معزز ممبران: آپ کا وٹس ایپ گروپ ایڈ من "**اردو بکس**" آپ سے مخاطب ہے۔

آپ تمام ممبران سے گزارش ہے کہ:

- گروپ میں صرف PDF کتب پوسٹ کی جاتی ہیں لہذا کتب کے متعلق اپنے کمنٹس / ریویوز ضرور دیں۔ گروپ میں بغیر ایڈ من کی اجازت کے کسی بھی قسم کی (اسلامی وغیر اسلامی، اخلاقی، تحریری) پوسٹ کرنا سختی سے منع ہے۔
- گروپ میں معزز، پڑھے لکھے، سلجھے ہوئے ممبرز موجود ہیں اخلاقیات کی پابندی کریں اور گروپ رولز کو فالو کریں بصورت دیگر معزز ممبرز کی بہتری کی خاطر ریموو کر دیا جائے گا۔
- کوئی بھی ممبر کسی بھی ممبر کو انباکس میں میسیج، مس کال، کال نہیں کرے گا۔ رپورٹ پر فوری ریموو کر کے کاروائی عمل میں لائے جائے گی۔
- ہمارے کسی بھی گروپ میں سیاسی و فرقہ واریت کی بحث کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں ہے۔
- اگر کسی کو بھی گروپ کے متعلق کسی قسم کی شکایت یا تجویز کی صورت میں ایڈ من سے رابطہ کیجئے۔
- سب سے اہم بات:

گروپ میں کسی بھی قادیانی، مرزائی، احمدی، گستاخِ رسول، گستاخِ امہات المؤمنین، گستاخِ صحابہ و خلفائے راشدین حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی المرتضیٰ، حضرت حسنین کریمین رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین، گستاخِ اہلبیت یا ایسے غیر مسلم جو اسلام اور پاکستان کے خلاف پراپیگنڈا میں مصروف ہیں یا ان کے روحانی وذہنی سپورٹرز کے لئے کوئی گنجائش نہیں ہے لہذا ایسے اشخاص بالکل بھی گروپ جوائن کرنے کی زحمت نہ کریں۔ معلوم ہونے پر فوراً ریموو کر دیا جائے گا۔

- تمام کتب انٹرنیٹ سے تلاش / ڈاؤنلوڈ کر کے **فری آف کاسٹ** وٹس ایپ گروپ میں شیئر کی جاتی ہیں۔ جو کتاب نہیں ملتی اس کے لئے معذرت کر لی جاتی ہے۔ جس میں محنت بھی صَرف ہوتی ہے لیکن ہمیں آپ سے صرف دعاؤں کی درخواست ہے۔
- عمران سیریز کے شوقین کیلئے علیحدہ سے عمران سیریز گروپ موجود ہے۔
- **لیڈیز کے لئے الگ گروپ کی سہولت موجود ہے جس کے لئے ویریفکیشن ضروری ہے۔**
- اردو کتب / عمران سیریز یا سٹڈی گروپ میں ایڈ ہونے کے لئے ایڈ من سے وٹس ایپ پر بذریعہ میسیج رابطہ کریں اور جواب کا انتظار فرمائیں۔ برائے مہربانی اخلاقیات کا خیال رکھتے ہوئے موبائل پر کال یا ایم ایس کرنے کی کوشش ہرگز نہ کریں۔ ورنہ گروپس سے تو ریموو کیا ہی جائے گا بلاک بھی کیا جائے گا۔

نوٹ: ہمارے کسی گروپ کی کوئی فیس نہیں ہے۔ سب فی سبیل اللہ ہے

0306-7163117 | 0343-7008883 | 0333-8033313

محمد سلمان سلیم | پاکستان زندہ باد | راؤ ایاز

پاکستان زندہ باد | پاکستان پائندہ باد

اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کا حامی وناصر ہو

مطالعاتی مواد (MCQs)

اُردو ☆ معاشرتی علوم ☆ اسلامیات

مطالعاتی مواد (Study Material)

اُردو

اردو زبان کی ابتدا

1۔ لفظ "اردو" کے لغوی معنی کیا ہیں؟

(ا) زبان

(ب) ادب

(ج) لشکر

(د) مقامی بولی

2۔ لفظ "اردو" کس زبان کا لفظ ہے؟

(ا) ہندی

(ب) فارسی

(ج) عربی

(د) ترکی

3۔ حافظ محمود شیرانی کی مشہور تصنیف ہے؟

(ا) پنجاب میں اردو

(ب) دکن میں اردو

(ج) سندھ میں اردو

(د) دہلی میں اردو

4۔ آغاز میں اردو کو کس نام سے پکارا گیا؟

(ا) لشکری زبان

(ب) ہندی

(ج) برج بھاشا

(د) اردوئے معلی

5۔ اردو کا لفظ سب سے پہلے کس کتاب میں استعمال کیا گیا؟

(ا) تزک بابری

(ب) تزک جہانگیری

(ج) دیوان خسرو

(د) آب حیات

6۔ کس شاعر نے ریختہ میں سب سے پہلا دیوان مرتب کیا؟

(ا) امیر خسرو

(ب) قلی قطب شاہ

(ج) میر تقی میر

(د) سراج الحق

7۔ شاہجہان نے اردو کے لئے کون سا نام تجویز کیا؟

(ا) ریختہ

(ب) برج بھاشا

(ج) ہندوی

(د) اردوئے معلی

8۔ مشہور کتاب معراج العاشقین کو اردو کی پہلی نثری تصنیف کس نے قرار دیا؟

(ا) محمد حسین آزاد

(ب) مولوی عبدالحق

(ج) مرزا غالب

(د) محمود اختر شیرانی

9۔ مولانا محمد حسین آزاد نے کس کتاب کو اردو کی پہلی نثری تصنیف قرار دیا؟

(ا) معراج العاشقین

(ب) باغ و بہار

(ج) آب حیات

(د) کربل کتھا

10۔ مسعود سعد سلمان کو اردو کا سب سے پہلا شاعر کس نے قرار دیا؟

(ا) مولوی عبدالحق

(ب) محمد حسین آزاد

(ج) محمود شیرانی

(د) احسن مارہروی

11۔ مشہور کتاب "دکن میں اردو" کس کی تصنیف ہے؟

(ا) محمود شیرانی

(ب) عبدالحکیم عطا
(ج) شوکت علوی
(د) مرزا غلام ربانی

24۔ کس مشہور مصنف نے اردو کو ہڑپہ اور موہنجوداڑو کی مقامی زبان قرار دیا؟
(ا) پنڈت برج موہن
(ب) سید سلیمان ندوی
(ج) ڈاکٹر تارا چند
(د) عین الحق فرید کوٹی

25۔ کس مشہور محقق نے اردو کو ہندی ویدوں سے بھی قبل کی زبان قرار دیا ہے؟
(ا) ڈاکٹر سہیل بخاری
(ب) محمود شیرانی
(ج) ڈاکٹر شوکت سبزواری
(د) مولانا شبلی

26۔ نصیر الدین ہاشمی کی یہ کتاب 1923ء میں منظر عام پر آئی؟
(ا) پنجاب میں اردو
(ب) سندھ میں اردو
(ج) مہاراشٹر میں اردو
(د) دکن میں اردو

27۔ جنوبی ہند میں کس شاعر نے اردو شاعری کی بنیاد رکھی؟
(ا) گورو نانک
(ب) بھگت کبیر
(ج) امیر خسرو
(د) ولی دکنی

28۔ یہ شعر کس مشہور شاعر کا ہے؟

شباں ہجراں دراز چوں زلف و روزِ وصلت چو عمر کوتاہ
سکھی پیا کو جو میں نہ دیکھوں تو کیسے اندھیری رتیاں

(ا) سراج اورنگ آبادی
(ب) ولی دکنی
(ج) بھگت کبیر
(د) امیر خسرو

29۔ اردو کی پہلی نثری داستان ہونے کا شرف کس کو حاصل ہے؟
(ا) سب رس
(ب) گلشن محبت
(ج) قصہ چہار درویش
(د) باغ و بہار

30۔ شاعری اور موسیقی کی مشہور کتاب "نورس" کا خالق کون ہے؟
(ا) قلی قطب شاہ
(ب) سلطان محمد
(ج) علی عادل شاہ
(د) ابراہیم عادل شاہ

31۔ مشہور کتاب "گلشن عشق" کس شاعر کی تخلیق ہے؟
(ا) ابن نشاطی
(ب) غواصی
(ج) نصرتی
(د) عبدل

32۔ مشہور شاعر برہان الدین جانم جس کا تعلق بیجاپور سے تھا اس کی وجہ شہرت شاعری کی کون سی تصنیف تھی؟
(ا) غزل
(ب) مثنوی
(ج) رباعی
(د) مرثیہ

33۔ کس شاعر نے ہجو کی وجہ سے شہرت حاصل کی؟
(ا) میر انیس
(ب) سودا
(ج) ذوق
(د) جعفر زٹلی

34۔ کس مشہور نثر نگار نے ولی دکنی کو اردو شاعری کا باوا آدم قرار دیا؟
(ا) مولانا شبلی
(ب) مولانا حالی
(ج) محمد حسین آزاد
(د) سرسید احمد خاں

35۔ یہ شعر کس شاعر کا ہے؟

زمیں چمن گل کھلاتی ہے کیا کیا
بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے

(ا) میر تقی میر

(ب) آتش

(ج) ناسخ

(د) ولی دکنی

36۔ جب بادشاہ قطب الدین تخت نشین ہوا تو کس مشہور شاعر نے اپنی مثنوی "نہ سپہر" اس کی نذر کی؟

(ا) قلی قطب شاہ

(ب) ملا وجہی

(ج) امیر خسرو

(د) میر تقی میر

37۔ ملک الشعراء ابو طالب کلیم ہمدانی نے جب قصیدہ لکھا تو کس بادشاہ نے اس کو روپوں میں تلوا دیا؟

(ا) اکبر (ب) جہانگیر

(ج) اورنگ زیب (د) شاہجہان

38۔ اردو زبان کے لئے ریختہ کا نام سب سے پہلے کس بادشاہ کے زمانہ میں استعمال کیا گیا؟

(ا) اکبر (ب) جہانگیر

(ج) اورنگ زیب (د) شاہجہان

جوابات

1	ج	2	د	3	ا	4	ب	5	ا
6	ا	7	د	8	ب	9	د	10	ج
11	د	12	ا	13	ج	14	ج	15	ا
16	د	17	ب	18	ج	19	ا	20	ب
21	د	22	ج	23	ب	24	د	25	ا
26	د	27	ب	28	د	29	ا	30	د
31	ج	32	ب	33	د	34	ج	35	ب
36	ج	37	د	38	ا				

اردو ادب کی ابتدا

1۔ اردو ادب میں کلکتہ کے شہر کا مقام کس وجہ سے ہے؟

(ا) اردو نثر کا ارتقا (ب) اردو نظم کا ارتقا

(ج) اردو ڈرامہ کا ارتقا (د) اردو غزل کا ارتقا

2۔ ہندوستان کا وہ ادارہ جس نے اردو نثر کے فروغ میں کلیدی کردار ادا کیا؟

(ا) انجمن اسلامیہ لاہور (ب) جامعہ ملیہ دہلی

(ج) فورٹ ولیم کلکتہ (د) انجمن ترقی اردو لکھنؤ

3۔ اردو زبان کا پہلا چھاپہ خانہ کس شہر میں قائم کیا گیا؟

(ا) دہلی (ب) کلکتہ

(ج) بمبئی (د) لاہور

4۔ وہ انگریز جس نے فورٹ ولیم کالج کے قیام میں سب سے نمایاں کردار ادا کیا؟

(ا) لارڈ کرزن (ب) لارڈ بیٹن

(ج) لارڈ کیننگ (د) لارڈ ڈفرن

5۔ فورٹ ولیم کالج کے حوالے سے میر بہادر علی حسینی کی وجہ شہرت کیا تھی؟

(ا) رسالہ قواعد زبان مرتب کیا۔

(ب) کئی انگریزی کتب کے اردو میں تراجم کیے۔

(ج) فارسی کتب کا اردو میں ترجمہ کیا۔

(د) اردو زبان کی تدریس کی۔

6۔ "توتا کہانی" کا ترجمہ کس نے کیا؟

(ا) شیر علی افسوس (ب) مولوی امانت علی شیدا

(ج) حیدر بخش حیدری (د) میر امن

7۔ شیر علی افسوس نے "باغ اردو" نام سے ترجمہ کس مشہور فارسی کتاب کا کیا؟

(ا) بوستان سعدی (ب) گلستان سعدی

(ج) باغ و بہار (د) گلزار دانش

8۔ "گلزار ابراہیم" نامی تذکرے کا ترجمہ کس نے کیا؟

(ا) مولوی امانت اللہ (ب) بہادر حسینی

(ج) کاظم علی جوان (د) مرزا علی لطف

9۔ قرآن السعدین نامی ہفتہ وار مجلہ کا تعلق کس کالج سے تھا؟

(ا) دہلی کالج

(ب) فورٹ ولیم کالج کلکتہ

(ج) علی گڑھ کالج (د) اسلامیہ کالج پشاور

10۔ دہلی کالج میں ماسٹر رام چندر نے کس موضوع پر کتب لکھیں؟

(ا) انگریزی ادب (ب) فارسی ادب

(ج) جبر و مقابلہ (د) علم ہندسہ

11۔ خان آرزو نے دہلی میں فارسی مشاعروں کی جگہ کس زبان کے مشاعروں کی بنیاد رکھی؟

(ا) ہندی (ب) سنسکرت

(ج) پراکرت (د) ریختہ

12۔ مشہور کتاب نکات الشعراء کس کی تصنیف ہے؟

(ا) میر تقی میر (ب) سودا

(ج) آتش (د) غالب

13۔ فورٹ ولیم کالج میں کاظم علی جوان نے کس مشہور کتاب کا ترجمہ کیا؟

(ا) گلزار ابراہیم (ب) شکنتلا

(ج) قصہ چہار درویش (د) توتا کہانی

14- اصلاحِ زبان کی تحریک کا مقصد کیا تھا۔

(ا) عربی الفاظ تراکیب اور صنعتوں کا استعمال

(ب) سنسکرت الفاظ ترکیب اور صنعتوں کا استعمال۔

(ج) ہندی الفاظ تراکیب اور صنعتوں کا استعمال۔

(د) فارسی الفاظ ترکیب اور صنعتوں کا استعمال۔

(15) اُردو زبان کے پہلے نقاد ہونے کا اعزاز کس شاعر کا حاصل ہے؟

(ا) میر تقی میر

(ب) قلی قطب شاہ

(ج) مرزا محمد رفیع سودا

(د) مصحفی

(16) شاعری کی کس صنف کو لکھنو میں سب سے زیادہ مقبولیت حاصل ہوئی؟

(ا) نظم (ب) [illegible]

(ج) [illegible] (د) [illegible]

(17) محسن کاکوروی کا تعلق [illegible] دبستان سے تھا

(ا) لکھنو (ب) [illegible]

(ج) کلکتہ (د) لاہور

(18) ایک قصہ نگاری کی سب سے قدیم صنف [illegible] ہے۔

(ا) ناول (ب) ڈرامہ

(ج) داستان (د) انشائیہ

(19) ناول کس زبان کا لفظ ہے۔

(ا) فرانسیسی (ب) جرمن

(ج) عربی (د) اطالوی

(20) مشہور ناول ''ابن الوقت'' کس کی تصنیف ہے؟

(ا) الطاف حسین حالی (ب) نذیر احمد

(ج) محمد حسین آزاد

(21) علی عباس حسینی کو کس صنف اُردو کے باعث شہرت ملی؟

(ا) ڈرامہ (ب) غزل

(ج) افسانہ (د) قصیدہ

(22) کالی داس کا مشہور ڈرامہ شکنتلا کس زبان میں لکھا گیا؟

(ا) ہندی (ب) سنسکرت

(ج) بنگالی (د) مرہٹی

(23) ڈاکٹر انور سجاد اور ثریا بجیا کی وجہ شہرت کیا ہے؟

(ا) افسانہ (ب) سفرنامے

(ج) ناولٹ (د) ڈرامہ

(24) فارسی میں لکھی گئی مشہور کتاب ''تزک بابری'' کا تعلق ادب کی کس صنف سے ہے؟

(ا) سفرنامہ (ب) ناول

(ج) آپ بیتی (د) ڈرامہ

(25) مسافران لندن کی کی تصنیف ہے؟

(ا) کرشن چندر (ب) سر سید احمد خاں

(ج) ریاض الدین (د) ابن انشا

(26) کس مشہور ادیب کے ہاں انشائیہ کے ابتدائی نمونے

ملتے ہیں؟

(ا) میر تقی میر (ب) ابوالکلام آزاد

(ج) پطرس بخاری (د) فرحت اللہ بیگ

(27) اردو غزل کا ارتقا کس دربار سے ہوا؟

(ا) دہلی میں تغلق دربار سے

(ب) لکھنو میں عادل شاہی دربار سے

(ج) بنگال میں سراج الدولہ کے دربار سے (د) دکن میں قطب شاہی دربار سے

(28) تشبیب کی اصطلاح کا تعلق کس صنف سے ہے؟

(ا) غزل (ب) قصیدہ

(ج) ہجو (د) ڈرامہ

(29) ڈاکٹر صفدر حسین۔ میر انیس کا تعلق کس صنف سے ہے؟

(ا) مرثیہ (ب) قصیدہ

(ج) غزل (د) انشائیہ

(30) فارسی کے شاعر فردوسی اور اردو شاعر میر حسن کی وجہ شہرت کیا ہے؟

(ا) غزل (ب) رباعی

(ج) قصیدہ (د) مثنوی

(31) ایک رباعی کتنے مصرعوں پر مشتمل ہوتی ہے؟

(ا) دو (ب) تین

(ج) چار (د) چھ

(32) ایک مسدس کے ہر بند میں کتنے مصرعے ہوتے ہیں؟

(ا) چار (ب) چھ

(ج) آٹھ (د) بارہ

(33) اردو نظم معریٰ کا آغاز کس صدی میں ہوا؟

(ا) سترھویں صدی

(ب) اٹھارہویں صدی

(ج) انیسویں صدی

(د) بیسویں صدی

(34) کس ناول کو اردو کا پہلا ناول قرار دیا جاتا ہے؟

(ا) بنات النعش (ب) ابن الوقت

(ج) فسانہ مبتلا (د) مراۃ العروس

(35) منشی پریم چند کی وجہ شہرت کیا تھا؟

(ا) ڈرامہ (ب) ناول

(ج) افسانہ (د) شاعری

(36) مشہور داستان "سب رس" جس ادیب نے تخلیق کی۔

(ا) ملا وجہی (ب) محمد حسین آزاد

(ج) میر عطا حسین (د) حیدر بخش حیدری

(37) ڈاکٹر عبادت بریلوی کا تعلق کس شعبے سے ہے؟

(ا) غزل (ب) ڈرامہ

(ج) تنقید (د) قصیدہ

جوابات

ا	5	ب	4	ب	3	ج	2	ا	1
ج	10	ا	9	د	8	ب	7	ج	6
ا	15	د	14	ب	13	ا	12	د	11
ب	20	د	19	ج	18	ا	17	د	16
ب	25	ج	24	د	23	ا	22	ج	21
د	30	ا	29	ب	28	د	27	د	26
ج	35	د	34	د	33	ب	32	ج	31
						ج	37	ا	36

☆☆☆☆☆☆

مترادف الفاظ

-1 ”اکبر“ کا مترادف لفظ کون سا ہے؟

A. جری B. بڑا C. نمایاں D. طاقتور

-2 ”انکسار“ کا ہم معنی لفظ کیا ہے؟

A. تکبر B. عجز C. عادل D. رحیم

-3 ”بشر“ کے ہم معنی لفظ کیا ہوگا؟

A. فرشتہ B. روح C. انسان D. سایہ

-4 ”تائید“ کے مترادف کیا لفظ ہے؟

A. تصدیق B. حمایت C. اطاعت D. بیعت

-5 ”عروج“ کے ہم معنی لفظ بتائیں۔

A. بہتات B. اونچا C. ترقی D. زینہ

-6 ”ڈھب“ کا مترادف کیا لفظ ہے؟

A. رسم B. رواج C. طریقہ D. انداز

-7 ”خورشید“ کے ہم معنی لفظ لکھیں۔

A. چمک دمک B. سہرا C. سورج D. دوپہر

-8 ”زاہد“ کے ہم معنی لفظ کیا ہے؟

A. عبادت گار B. مومن C. پرہیزگار D. اطاعت گزار

-9 ”صادق“ کا مترادف کیا ہے؟

A. صبح B. سحر C. سچا D. تبلیغی

-10 ”سم“ کے ہم معنی لفظ کیا ہے؟

A. تریاک B. زم زم C. آب D. زہر

-11 ”شوم“ کے مترادف لفظ کیا ہے؟

A. شرمناک B. ضائع C. کنجوس D. ذخیرہ اندوز

-12 ”صف“ کے ہم معنی لفظ بتائیں

A. اچھائی B. طویل C. قطار D. بھیڑ

-13 ”یاس“ کے مترادف لفظ بتائیں؟

A. آشنا B. یقین C. ناسور D. ناامیدی

-14 ”وصال“ کے ہم معنی لفظ لکھیں۔

A. فراق B. دریا C. نزدیک D. ملاپ

-15 ”مہر“ کے مترادف کیا لفظ ہے؟

A. حق B. عدل C. نفرت D. محبت

-16 ”لاف“ کے ہم معنی لفظ کیا ہوگا؟

A. فضول B. بھاگ دوڑ C. شیخی D. بڑبڑانا

17- ''ظریف'' کے مترادف لفظ کیا ہوگا؟

A. مضحکہ خیز B. ہنس مکھ C. لاپرواہ D. مسخرا

18- ''ظفر'' کے ہم معنی لفظ کیا ہے؟

A. جنگ B. مفتوح C. فتح D. شادمانی

19- ''طرفہ'' کے مترادف لفظ کیا ہے؟

A. الگ B. انوکھا C. عامیانہ D. رد

20- ''ندا'' کے مترادف لفظ بیان کریں۔

A. چیخ B. گونج C. دھمک D. آواز

21- ''نجم'' کے ہم معنی لفظ کیا ہے؟

A. اجالا B. بلند C. ستارہ D. دوراندیش

22- ''قرب'' کے ہم معنی لفظ کیا ہے؟

A. ساتھ B. دوبدن C. نزدیک D. آس پاس

23- ''عاجل'' کا ہم معنی کیا ہے؟

A. عداوت B. بے رخی C. جلد بازی D. انتشار

24- ''قاعدہ'' کا ہم معنی لفظ کیا ہے؟

A. قانون B. اٹل C. تقدیر D. اصول

25- ''فسانہ'' کے ہم معنی دوسرا لفظ کون سا ہے؟

A. آپ بیتی B. روداد C. داستان D. جگ بیتی

26- ''مرقد'' کا مترادف لفظ کون سا ہے؟

A. مزار B. حجرہ C. آستانہ D. پناہ گاہ

27- ''مغموم'' کا ہم معنی دوسرا لفظ کون سا ہے؟

A. پریشان B. آفت زدہ C. غمزدہ D. گم راہ

28- ''عداوت'' کا مترادف دوسرا لفظ کون سا ہے؟

A. بدگمانی B. ظلمت C. شناسائی D. دشمنی

29- ''کامرانی'' کا مترادف دوسرا لفظ کون سا ہے؟

A. شادمانی B. کیمیائی C. کامیابی D. کارفرمائی

30- ''صلح'' کا ہم معنی لفظ بتائیں۔

A. امن B. برتری C. فراخی D. آشتی

31- ''قصر'' کا مترادف لفظ بتائیں۔

A. محل B. مقبرہ C. مزار D. آستان

32- ''زوجہ'' کا ہم معنی لفظ کون سا ہے۔

A. ساتھی B. بیوہ C. بیوی D. ہمسفر

33- ''سحر'' کا مترادف لفظ بتائیں۔

A. صادق B. اُجالا C. صبح D. فلک

34- "سخن ور" کا ہم معنی لفظ لکھیں۔

A. دیدہ ور B. سخن گو C. داستان گو D. پیامبر

35- "منظر" کا مترادف لفظ بتائیں۔

A. نظارہ B. منظم C. راہ گذر D. راہداری

36- "میکدہ" کا مترادف لفظ بیان کریں۔

A. مے فروشی B. میخانہ C. مہوش D. مدہوش گاہ

37- "کواکب" کا ہم معنی لفظ بیان کریں۔

A. جادوگری B. نجوم C. دست شناسی D. قصیدہ گوئی

38- "علم" کا مترادف لفظ کون سا ہے؟

A. فنون B. جھنڈا C. پرچم D. آنچل

39- "محفل" کا ہم معنی لفظ لکھیں۔

A. انجمن B. مجلس C. اجلاس D. جلسہ

40- "گنج" کا مترادف بیان کریں۔

A. بخشش B. خزانہ C. دان D. زادِ راہ

41- "مدح" کا مترادف لفظ کون سا ہے؟

A. تعریف B. پرستار C. خوشنما D. راہنما

42- "قصد" کا ہم معنی لفظ کون سا ہے؟

A. عزم B. ہموا C. تعریف D. آواز

43- "ثمر" کا مترادف لفظ بیان کریں۔

A. رس B. باغ C. پھل D. گلشن

44- "فہم" کا ہم معنی دوسرا لفظ کون سا ہے؟

A. فراست B. سچائی C. راستی D. حق

45- "دغا" کے مترادف دوسرا لفظ بیان کریں۔

A. گمراہ B. فریب C. جھوٹ D. پاپ

46- "تاجور" کے ہم معنی دوسرا لفظ کون سا ہے؟

A. بادشاہ B. تخت C. حاکمیت D. فرمان

47- "حکایت" کے مترادف لفظ بیان کریں۔

A. کہانی B. داستان C. رپوتاژ D. راہ نمائی

48- "گوہر" کے ہم معنی دوسرا لفظ کون سا ہے؟

A. منزل B. مراد C. موتی D. نایاب

جوابات

1	B	2	B	3	C
4	B	5	C	6	C
7	C	8	C	9	C

C	12	C	11	D	10
D	15	D	14	D	13
C	18	D	17	C	16
C	21	D	20	B	19
D	24	C	23	C	22
C	27	A	26	B	25
D	30	C	29	D	28
C	33	B	32	A	31
B	36	A	35	B	34
A	39	C	38	B	37
A	42	B	41	B	40
B	45	A	44	C	43
C	48	B	47	A	46

متضاد الفاظ

1- "نظم" کے متضاد کیا لفظ ہے؟

A. طے شدہ B. احتیاط C. نثر D. اسلوب

2- "ناقص" کا متضاد لکھیں۔

A. پرامید B. محکم C. یقین D. کامل

3- "خالق" کا متضاد کیا ہے؟

A. بناؤ B. تخلیق C. خلیق D. مخلوق

4- "رہبر" کا متضاد لکھیں۔

A. راہنما B. قیادت C. رہزن D. تقلید

5- "کاذب" کا متضاد کیا ہے؟

A. جاہل B. صادق C. اجلا D. صاف شفاف

6- "قریب" کے متضاد لفظ کیا ہوگا؟

A. طول B. لاشعور C. بعید D. طور

7- "کھردرا" کا متضاد کیا لفظ ہے؟

A. سلوٹ شدہ B. کھاری C. ملائم D. سخت

8- "مسرور" کا متضاد لفظ کیا ہے؟

A. یاس انگیز B. نراسا C. مغموم D. ناامید

9- "زیادتی" کے متضاد لفظ کیا ہے؟

A. ظلمت B. اندھیر C. غم D. کمی

10- "گدا" کے متضاد لفظ بیان کریں۔

A. فقیر B. ملنگ C. شاہ خرچ D. شاہ

11- "ضعیف" کا متضاد کیا ہے؟

A. ناتواں　B. کم ہمت　C. قوی　D. قادر

12- "پیادہ" کا متضاد بیان کریں؟

A. پیدل　B. بےدم　C. سوار　D. بے پایاں

13- "ثقیل" کا متضاد لفظ بیان کریں۔

A. ہلکا　B. آسان　C. نرم　D. کومل

14- "عدم" کا متضاد لفظ کون سا ہے؟

A. آباد　B. وجود　C. وصل　D. ہجر

15- "اسراف" کا متضاد بیان کریں۔

A. بخل　B. کمیابی　C. روک　D. کھچاؤ

16- "اوج" کا متضاد بیان کیجئے؟

A. ہموار　B. پستی　C. چٹیل　D. سیدھا

17- "فراق" کا متضاد کیا ہے؟

A. رابطہ　B. وصال　C. چارہ گر　D. میل

18- "نشیب" کا لفظ ضد کیا ہے؟

A. فراز　B. اُلجھاؤ　C. پوشیدہ　D. اُتراؤ

19- "حضر" کا متضاد بیان کریں۔

A. راہ بر　B. پیامبر　C. سفر　D. راہ نما

20- "پاکیزہ" کا متضاد لفظ کیا ہے؟

A. باعصمت　B. دوشیزگی　C. داغدار　D. ملاحت

21- "فرزانہ" کا متضاد بیان کیجئے۔

A. عالم　B. ہوش مندگی　C. دیوانہ　D. بے ہوش

22- "ہجر" کا لفظ ضد کیا ہے؟

A. ملاپ　B. جوڑ　C. وصل　D. دوری

23- "قریب" کا متضاد لکھیں۔

A. دسترس　B. دُور　C. بعید　D. نزد

24- "تعمیر" کا متضاد کیا ہے؟

A. تخریب　B. اُتار　C. پھوٹ　D. غارت گری

25- "سہل" کا متضاد کیا ہے؟

A. مشکل　B. فریب　C. دُور　D. گمشدہ

26- "ساکن" کا متضاد لفظ بیان کریں۔

A. جاری کردہ　B. متحرک　C. ٹھہراؤ　D. بہاؤ

27- "شر" کا متضاد بیان کریں۔

A. شیطانیت　B. خیر　C. پاپی　D. سلامتی

28- "غنی" کا متضاد بیان کیجئے۔

A. غفور B. اکثریت C. فقر D. فقیر

29- "عدم" کا متضاد لکھیں۔

A. وجود B. دستیاب C. نظر D. پناہ

30- "طول" کا متضاد کیا ہے؟

A. لمبا B. عرض C. پھیلاؤ D. طویل

31- "اتحاد" کا متضاد لکھیں۔

A. اختلاف B. شرک C. تفرقہ D. تسلیم

32- "پیادہ" کا متضاد کیا ہے؟

A. سربکف B. سوار C. پیدل D. چڑھائی

33- "حق" کا متضاد لکھیں۔

A. توحید B. باطل C. فریب D. مسلم

34- "جدید" کا متضاد بیان کیجئے۔

A. قدیم B. گذشتہ C. گم کردہ D. گمشدہ

35- "شام" کا متضاد کیا ہے؟

A. قوس B. غروب C. سحر D. اُجالا

36- "گمنام" کا متضاد کیا ہے؟

A. ہمنام B. مشہور C. عامیانہ D. اصیل

جوابات

1	C	2	D	3	D
4	C	5	B	6	C
7	C	8	C	9	D
10	D	11	C	12	C
13	A	14	B	15	A
16	B	17	B	18	A
19	B	20	B	21	C
22	C	23	C	24	A
25	A	26	B	27	B
28	D	29	A	30	B
31	A	32	B	33	B
34	A	35	C	36	B

محاورات

1- "حرف آنا" کا مفہوم کیا ہے؟

A. سیکھ جانا B. عقل مند ہونا C. الزام آنا D. طے شدہ امر بھلانا

2- "چھاتی پر مونگ دلنا" کا مطلب کیا ہے؟

A. مصیبت میں گرفتار کر دینا B. الٹی راہ دکھانا C. آخرت تباہ کرنا D. سخت دکھ دینا

3- "بغلیں جھانکنا" کا مفہوم کیا ہے؟

A. غیر صحت مند نظر آنا B. خود اعتمادی کا اظہار کرنا C. انصاف سے کام لینا D. شرمندہ ہونا

4- "بے پر کی اڑانا" کا مطلب کیا ہے؟

A. غلط اندازے لگانا B. افواہ پھیلانا C. ادھر ادھر کی ہانکنا D. شور شرابہ کرنا

5- "آسمان سر پہ اٹھانا" کا مطلب کیا ہے؟

A. بہادری دکھانا B. فتح مند ہونا C. شور شرابہ کرنا D. عظیم کام کر دکھانا

6- "چراغ گل ہونا" کا مطلب بیان کریں۔

A. ملیامیٹ ہونا B. آخری سانسیں لینا C. ختم ہونے کے نزدیک آ جانا
D. مکمل خاتمہ ہونا

7- "جنگل میں منگل" سے کیا مراد ہے؟

A. رونق کر دینا B. نوری بارش برسا دینا C. ویران جگہ پر رونق کر دینا
D. خوشیاں پھیلا دینا

8- "رائی کا پہاڑ بنا دینا" سے کیا مراد ہے؟

A. مشکل کام نمٹا دینا B. بے قدر کر دینا
C. مشکل حل کر دینا D. چھوٹی بات کو بڑھا دینا

9- "غم غلط کرنا" کا مفہوم بیان کریں۔

A. مغموم ہو جانا B. اداسی طاری کر لینا C. دل بہلانا D. خوشی کا اظہار کرنا

10- "طرح دینا" سے کیا مراد ہے؟

A. نظر انداز کرنا B. موقع فراہم کرنا C. مقابلہ کرنا D. گرا دینا

11- "ترکی تمام ہونا" کا مفہوم کیا ہے؟

A. غرور ختم ہونا B. کام مکمل ہونا C. سفر کا اختتام D. امانت لوٹانا

12- "تگنی کا ناچ نچانا" کا مطلب کیا ہے؟

A. راہ سے ہٹانا B. پریشان کرنا C. اچھل کود کرنا D. بھاگ دوڑ کروانا

13- "تین حرف بھیجنا" کا مفہوم کیا ہے؟

A. حساب برابر کر دینا B. لعنت بھیجنا C. جھوٹ پکڑنا D. دغا دینا

14- "تیل منڈھے چڑھنا" کا مطلب کیا ہے؟

A. آسمان سے باتیں کرنا B. کام مکمل ہو جانا C. اونچائی پر جانا D. راستہ دکھا دینا

15- "تین پانچ کرنا" کا مفہوم کیا ہے؟

A. حساب کتاب کرنا B. دھوکہ دینا C. تکرار کرنا D. جھوٹ بولنا

16- "اُلٹی گنگا بہانا" کا مطلب کیا ہے؟

A. گمراہ کرنا B. ٹال مٹول کرنا C. خلافِ معمول کام کرنا D. راستہ کاٹنا

17- "آنکھیں پتھرا جانا" کا مطلب کیا ہے؟

A. بے حس ہونا B. گھبرا جانا C. رو دینا D. بے مروت ہونا

18- "آستین چڑھانا" کا مفہوم کیا ہے؟

A. لڑنے کو تیار ہونا B. نفاق پیدا کرنا C. روٹھ جانا D. بھاگ جانا

19- "آنکھیں پھیر لینا" کا مطلب کیا ہے؟

A. فریب دینا B. ناراض ہو جانا C. دھوکہ دہی کرنا D. راہ سے بھٹکانا

20- "آڑے آنا" کا مطلب بیان کیجئے۔

A. مصیبت میں ڈال دینا B. مدد دینا C. ناراضگی ظاہر کرنا D. خسارہ پہنچانا

21- "بے پر کی اُڑانا" کا مفہوم بیان کیجئے

A. افواہیں پھیلانا B. اپنی خوشامد کرانا C. جھوٹ بولنا D. روپیہ اُڑانا

22- "اُمید بر آنا" کا مفہوم کیا ہے؟

A. اولاد ہونا B. آرزو پوری کرنا C. آرزو پوری ہونا D. اُمید میں رہنا

23- "آنکھیں سفید ہونا" کا مفہوم بتائیں۔

A. اندھا ہو جانا B. بے وفا ہو جانا C. دُور اندیشی آنا D. رو دینا

24- "تیور بدلنا" کا مطلب کیا ہے؟

A. غرور ختم ہونا B. بے مروت ہو جانا C. سچ بولنا D. فریب دینا

25- "تر دامن ہونا" کا مطلب بیان کیجئے۔

A. مالدار ہونا B. اولاد ہونا C. گناہگار ہونا D. مصیبت میں پڑ جانا

26- "پاؤں تلے زمین نکل جانا" کا مفہوم کیا ہے؟

A. گھبرا جانا B. مکر جانا C. جھوٹ پکڑا جانا D. گرفتار ہونا

27- "تاؤ کھانا" کا مطلب بیان کیجئے۔

A. غصے میں آ جانا B. گھبرا جانا C. شرمسار ہونا D. سازش کرنا

28- "ٹس سے مس نہ ہونا" کا مفہوم بیان کیجئے۔

A. ایک جگہ بیٹھے رہنا B. ذرا برابر اثر نہ لینا C. کسی کیلئے راہ نہ چھوڑنا D. گمراہ کرنا

29- "آنکھوں سے گرنا" کا مطلب بتائیں۔

A. دھوکہ ہونا B. بے قدر ہونا C. نظر نہ آنا D. بُھلا دینا

30- "پگڑی اُچھالنا" کا مفہوم کیا ہے؟

A. بدنام کرنا B. بے وسیلہ کر دینا C. برہنہ کرنا D. نقصان پہنچانا

31- "آگ لگانا" کا مطلب کیا ہے؟

A. نقصان دینا B. فتنہ کھڑا کرنا C. آگ لگا دینا D. پانی پھیر دینا

32- "آوازے کسنا" کا مطلب بیان کیجئے۔

A. باتیں بنانا B. مذاق اُڑانا C. شک میں ڈالنا D. بے خبر ظاہر کرنا

-33 "آئینہ میں بال آنا" کا مفہوم بتائیں

A. شک ہونا B. دشمنی میں مبتلا ہونا C. نقصان ہونا D. شرمسار ہونا

-34 "پانی پھیر دینا" کا مطلب لکھیں

A. شرمسار کر دینا B. برباد کر دینا C. بے آبرو کرنا D. راستہ کھوٹا کرنا

جوابات

D	3	D	2	C	1
D	6	C	5	B	4
C	9	D	8	C	7
B	12	A	11	B	10
C	15	B	14	B	13
A	18	A	17	C	16
A	21	B	20	B	19
B	24	A	23	C	22
A	27	A	26	C	25
A	30	B	29	B	28
A	33	B	32	B	31
				B	34

واحد جمع

-1 "سیرت" کی جمع کیا ہے؟

A. سیرتیں B. اسیرات C. سیر

-2 "سعی" کا جمع بتائیں۔

A. سعیات B. مساعی C. سعیاتیں

-3 "عابد" کی جمع لکھیں

A. عبادت B. عبد C. عباد

-4 "وظیفہ" کی جمع کیا ہے؟

A. وظیفے B. وظائف C. اوظائین

-5 "رکعت" کی جمع کیا ہوگی؟

A. ارکعات B. رکعتیں C. رکعاعت

-6 "رمز" کی جمع کیا ہے؟

A. ارماز B. رمزیں C. رموز

-7 "ساحل" کی جمع کیا ہے؟

A. ساحلات B. سواحلیں C. سواحل

-8 ''سبق'' کی جمع کیا ہے؟

A. سبقیں B. اسباق C. سبق

-9 ''دائرہ'' کی جمع کیا ہے؟

A. دائرے B. دائریں C. دوائر

-10 ''خصلت'' کی جمع تحریر کریں۔

A. خصلتیں B. خصائل C. خصول

-11 ''رب'' کی جمع کیا ہے

A. ارباب B. رباب C. اربیں

-12 ''رئیس'' کی جمع کیا ہے؟

A. رائیس B. رؤسا C. رائیسن

-13 ''دکان'' کی جمع لکھیں۔

A. دکانیں B. دکانات C. دکوانین

-14 ''فرد'' کی جمع کیا ہے؟

A. افراد B. فردین C. افرادین

-15 ''آفت'' کی جمع کیا ہے؟

A. آفات B. آفتیں C. آفیات

-16 ''قرب'' کی جمع کیا ہے؟

A. اقربا B. اقارب C. اقاربیں

-17 ''اعلیٰ'' کی جمع کیا ہے؟

A. آلات B. اعالی C. عالی

-18 ''برکت'' کی جمع بتائیں۔

A. برکتیں B. برکات C. برقات

-19 ''ترجمہ'' کی جمع کیا ہے؟

A. ترجمے B. ترجمات C. تراجم

-20 ''جزو'' کی جمع بتائیں۔

A. جزئیات B. اجزاء C. جزو

-21 ''ذخیرہ'' کی جمع کیا ہے؟

A. ذخیرے B. ذخائر C. ذاخائرت

-22 ''خبر'' کی جمع کیا ہے؟

A. خبریں B. اخبار C. خبرز

-23 ''جریدہ'' کی جمع لکھیں

A. جریدے B. جرائد C. جریدہ جات

-24 ''ذرہ'' کی جمع کیا ہے؟

A. ذرات B. ذرے C. ذراھا

-25 "شاعر" کی جمع کیا ہے؟
A. اشاعر　B. شعراء　C. شاعرات

-26 "عاقل" کی جمع کیا ہے؟
A. عقلات　B. عاقول　C. عقلا

-27 "غنی" کی جمع کیا ہے؟
A. غنیات　B. اغناء　C. اغنیاء

-28 "رکن" کی جمع کیا ہے؟
A. ارکان　B. ارکین　C. رکنات

-29 "حس" کی جمع کیا ہے؟
A. حواس　B. احساس　C. حسوس

-30 "حکیم" کی جمع کیا ہے؟
A. حکماء　B. حاکماء　C. حکیمات

-31 "فاضل" کی جمع بتائیں۔
A. فاضلین　B. فاضلا　C. فضلا

-32 "شریک" کی جمع کیا ہے؟
A. شریکات　B. شرکاء　C. شریکان

-33 "عامل" کی جمع کیا ہے؟
A. عوامل　B. عمال　C. عاملین

-34 "رکعت" کی جمع کیا ہے؟
A. رکعات　B. رکعاین　C. رکعاتین

-35 "صانع" کی جمع بتائیں۔
A. صانعات　B. صانع　C. صناع

جوابات

C	3	B	2	C	1
C	6	C	5	B	4
C	9	B	8	C	7
B	12	A	11	B	10
A	15	A	14	B	13
B	18	B	17	B	16
B	21	C	20	C	19
A	24	B	23	B	22
C	27	C	26	B	25
A	30	A	29	B	28
B	33	B	32	C	31
B	36	C	35	A	34
A	39	B	38	B	37
A	42	B	41	C	40

-17 خان کی مونث بتائیں۔

A. بیگم   B. خانم   C. خاتون

-18 رنڈوا کی مونث کیا ہے؟

A. بیوہ   B. رانڈ   C. ناری   D. استری

-19 "ڈوم کی مونث کیا ہے؟

A. ڈم ڈم   B. ڈومنی   C. ڈومنی

-20 جولاہا کی مونث کیا ہے؟

A. جولاہی   B. جولاہن   C. جولا حادہ

-21 گائیک کی مونث کیا ہے؟

A. گائیکن   B. گائین   C. گیتا

-22 پارسی کی مونث کیا ہے؟

A. پارسن   B. پارس   C. پاروتی

-23 پٹواری کی مونث کیا ہے؟

A. پٹوارائن   B. پٹوارن   C. پٹوری

-24 مہتر کی مونث کیا ہے؟

A. مہترانی   B. مہترن   C. مہترائن

جوابات

B	3	A	2	C	1
C	6	B	5	B	4
B	9	C	8	A	7
B	12	C	11	C	10
B	15	B	14	C	13
C	18	B	17	B	16
A	21	B	20	A	19
B	24	A	23	B	22

☆☆☆☆☆☆

شعری اصطلاحات (تشبیہ، استعارہ، تلمیح)

-1 تشبیہ کس زبان کا لفظ ہے؟

(ا) اردو (ب) عربی

(ج) فارسی (د) ترکی

-2 تشبیہ کے لغوی معنی کیا ہیں؟

(ا) مشابہت (ب) ہم شکل

(ج) ایک جیسا (د) شبہ

-3 تشبیہ کے اصطلاحی معنی کیا ہیں؟

(ا) مشترک صفت کی بنا پر ایک چیز کو دوسری چیز کے مانند قرار دینا (ب) ایک چیز کو ہو بہو دوسری چیز قرار دینا

(ج) مشترک صفت (د) کسی کی خوبیاں کو بیان کرنا

-4 تشبیہ کا مقصد کیا ہے؟

(ا) کسی کی خوبی بیان کرنا (ب) کسی کی خامی بیان کرنا

(ج) کسی کی خوبی یا خامی بیان کرنا (د) کسی کی خوبی یا خامی کو بڑھا چڑھا کر بیان کرنا

-5 تشبیہ کے کتنے ارکان ہوتے ہیں؟

(ا) دو (ب) تین

(ج) چار (د) پانچ

-6 "مشبہ" کسے کہتے ہیں؟

(ا) جس چیز کو تشبیہ دی جائے (ب) جس سے تشبیہ دی جائے

(ج) جس کے ذریعے تشبیہ دی جائے (د) جس وجہ سے تشبیہ دی جائے

-7 "مشبہ بہ" کسے کہتے ہیں۔

(ا) جس کو کسی سے تشبیہ دی جائے (ب) جس سے تشبیہ دی جائے

(ج) جس وجہ سے تشبیہ دی جائے (د) جس کے ذریعے تشبیہ دی جائے

-8 جس چیز سے تشبیہ دی جائے اس میں مشترک صفت مشبہ کی نسبت:

(ا) زیادہ ہوتی ہے (ب) کم ہوتی ہے

(ج) برابر ہوتی ہے (د) نہیں ہوتی

-9 جیسا، ایسا، مانند، مثل، کی طرح، کی سی، یا اور کہ وغیرہ کیا ہیں؟

(ا) مشبہ (ب) مشبہ بہ

(ج) حروف تشبیہ (د) وجہ شبہ

-10 وجہ شبہ کسے کہتے ہیں؟

(ا) جس مقصد کے لئے تشبیہ دی جائے (ب) مشترک صفت

(ج) مانند　　　(د) مثل

11- غرضِ تشبیہ کسے کہتے ہیں؟

(ا) جس مقصد کے لئے تشبیہ دی جائے　　　(ب) مشترک صفت

(ج) جس کو تشبیہ دی جائے　　　(د) جس سے تشبیہ دی جائے

12- "احمد شیر کی طرح بہادر ہے" اس جملے میں کون سی اصطلاح آئی ہے؟

(ا) تشبیہ　　　(ب) استعارہ

(ج) تلمیح　　　(د) کنایہ

13- میرا بیٹا چاند کی طرح خوبصورت ہے۔ اس جملے میں مشبہ کیا ہے؟

(ا) چاند　　　(ب) بیٹا

(ج) کی طرح　　　(د) خوبصورت

14- "وہ گدھے کی طرح احمق ہے" اس جملے میں مشبہ بہ کیا ہے؟

(ا) وہ　　　(ب) گدھا

(ج) کی طرح　　　(د) احمق

15- "پنکھڑی اک گلاب کی سی ہے" اس مصرعے میں حرفِ تشبیہ کیا ہے؟

(ا) پنکھڑی　　　(ب) گلاب

(ج) کی سی　　　(د) اک

16- زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے
ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے

اس شعر میں کون سی شعری اصطلاح آئی ہے۔

(ا) تشبیہ　　　(ب) استعارہ

(ج) تلمیح　　　(د) حسنِ تعلیل

17- پھول ہیں صحرا میں یا پریاں قطار اندر قطار
اودے اودے نیلے نیلے پیلے پیلے پیرہن

اس شعر میں پھولوں کو کس سے تشبیہ دی گئی ہے۔

(ا) صحرا سے　　　(ب) پریوں سے

(ج) قطار سے　　　(د) پیرہن سے

18- اس کے پہچان کا کچھ شمار نہیں
زلف ہے یا کہ موج دریا ہے

اس شعر میں مشبہ کیا ہے؟

(ا) پہچان　　　(ب) موج

(ج) دریا　　　(د) زلف

19- مہک رہی ہے فضا بھینی بھینی خوشبو سے

ترا بدن ہے کہ ٹکڑا ہے کوئی چندن کا

اس شعر میں مشبہ بہ کیا ہے؟

(ا) فضا (ب) خوشبو

(ج) بدن (د) چندن کا ٹکڑا

20- جگنو کی روشنی ہے کاشانہ چمن میں
یا شمع جل رہی ہے پھولوں کی انجمن میں

اس شعر میں وجہ شبہ کیا ہے؟

(ا) جگنو (ب) روشنی

(ج) شمع (د) انجمن

21- ہستی اپنی حباب کی سی ہے
یہ نمائش سراب کی سی ہے

اس شعر میں غرض تشبیہ کیا ہے۔

(ا) ہستی (ب) حباب

(ج) سراب (د) زندگی کے عارضی ہونے کا بیان

22- استعارہ کس زبان کا لفظ ہے؟

(ا) عربی (ب) فارسی

(ج) اُردو (د) ہندی

23- استعارہ کے لغوی معنی کیا ہیں؟

(ا) ادھار لینا (ب) ادھار دینا

(ج) اشارہ کرنا (د) تعریف کرنا

24- استعارہ کے اصطلاحی معنی کیا ہیں؟

(ا) ایک چیز کو دوسری جیسا قرار دینا (ب) ایک چیز کو ہو بہو دوسری چیز قرار دینا

(ج) شعر میں کسی مشہور واقعے کا ذکر کرنا (د) بطور اصطلاح استعارہ کے کوئی معنی نہیں

25- استعارہ کی تعریف ہے:

(ا) کسی لفظ کو مجازی معنوں میں اس طرح استعمال کرنا کہ اس کے حقیقی اور مجازی معنوں میں تشبیہ کا تعلق موجود ہو۔ (ب) ایک چیز کو دوسری جیسا قرار دینا

(ج) کسی تاریخی واقعے کی طرف اشارہ کرنا (د) کل کہہ کر جزو مراد لینا

26- استعارہ کے کتنے ارکان ہوتے ہیں؟

(ا) دو (ب) تین

(ج) چار (د) پانچ

27- مستعار لہٗ استعارہ کا کون سا رکن ہے؟

(ا) پہلا (ب) دوسرا
(ج) تیسرا (د) چوتھا

-28 مستعار منہ استعارہ کا کون سا رکن ہے؟
(ا) پہلا (ب) دوسرا
(ج) تیسرا (د) چوتھا

-29 وجہ جامع استعارہ کا کون سا رکن ہے؟
(ا) پہلا (ب) دوسرا
(ج) تیسرا (د) چوتھا

-30 مستعار لہ کا مطلب ہے:
(ا) وہ شخص یا چیز جس کے لئے کوئی لفظ مستعار لیا گیا ہو (ب) جس لفظ کو مستعار لیا گیا
(ج) جس چیز یا شخص کو تشبیہ دی جائے (د) جس سے تشبیہ دی جائے

-31 مستعار منہ کا مطلب ہے:
(ا) جس کے لئے کوئی لفظ مستعار لیا جائے (ب) جس لفظ کو کسی کے لئے مستعار لیا جائے
(ج) جس سے تشبیہ دی جائے (د) جس کو تشبیہ دی جائے

-32 وجہ جامع سے مراد ہے۔
(ا) مستعار لینا (ب) مستعار دینا
(ج) مشترک صفت (د) مشترک صفت کا مبالغہ آمیز بیان

-33 "بچہ تو چاند ہے" اس جملے میں کون سی اصطلاح آئی ہے:
(ا) تشبیہ (ب) استعارہ
(ج) تلمیح (د) مجاز مرسل

-34 "احمد تو شیر ہے۔" اس جملے میں مستعار لہ کیا ہے؟
(ا) احمد (ب) شیر
(ج) تو (د) ہے

-35 "احمد تو شیر ہے۔" اس جملے میں مستعار منہ کیا ہے؟
(ا) احمد (ب) شیر
(ج) تو (د) ہے

-36 احمد تو شیر ہے۔ اس جملے میں وجہ جامع کیا ہے؟
(ا) گوشت خور ہونا (ب) آزاد خیال ہونا
(ج) صحت مند ہونا (د) بہادر ہونا

-37 کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے
رن ایک طرف چرخ کہن کانپ رہا ہے
اس شعر میں کون سی شعری اصطلاح موجود ہے؟

(ا) تشبیہ (ب) کنایہ
(ج) استعارہ (د) مجاز مرسل

38- اک روشن دماغ تھا نہ رہا
شہر میں اک چراغ تھا نہ رہا
اس شعر میں کس کے لئے کیا استعارہ لیا ہے؟
(ا) ایک عالم کے لئے چراغ (ب) چراغ کے لئے روشن دماغ
(ج) شہر کے لئے چراغ (د) چراغ کے لئے شہر

39- ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے
بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا
اس شعر میں کون سی شعری اصطلاح استعمال ہوئی ہے؟
(ا) مجاز مرسل (ب) استعارہ
(ج) تشبیہ (د) تلمیح

40- ذیل میں سے استعارہ کی مثال کی نشاندہی کیجئے:
(ا) احمد شیر کی طرح بہادر ہے (ب) احمد شیر ہے
(ج) شیر احمد کی طرح ہے (د) احمد کے گھر شیر ہے

41- تلمیح کس زبان کا لفظ ہے؟
(ا) فارسی (ب) اردو
(ج) ترکی (د) عربی

42- تلمیح کے لغوی معنی کیا ہیں؟
(ا) مشابہ قرار دینا (ب) مستعار لینا
(ج) اشارہ کرنا (د) ملانا

43- تلمیح کے اصطلاحی معنی کیا ہیں؟
(ا) کسی تاریخی واقعے کی طرف اشارہ کرنا (ب) ایک چیز کو دوسری جیسا قرار دینا
(ج) ایک چیز کو ہو بہو دوسری چیز کہنا (د) جزو کہہ کر کل مراد لینا

44- تلمیح کی تعریف کیا ہے؟
(ا) ایک چیز کے لئے دوسری چیز مستعار لینا (ب) نظم و نثر میں کسی مشہور تاریخی شخصیت، واقعہ یا جگہ کی طرف اشارہ کرنا
(ج) ایک چیز کو دوسری کے مانند کے قرار دینا (د) واقعاتی شاعری کرنا

45- ابن مریم ہوا کرے کوئی
میرے دکھ کی دوا کرے کوئی
اس شعر میں "ابن مریم" سے کس اصطلاح کا استعمال ہوا ہے؟
(ا) تشبیہ (ب) استعارہ

(ج) تلمیح (د) کنایہ

46- کیا کیا خضر نے سکندر سے
اب کسے رہ نما کرے کوئی

اس شعر میں کون کی شعری اصطلاح استعمال ہوئی ہے؟

(ا) تلمیح (ب) استعارہ

(ج) تشبیہ (د) مجازِ مرسل

47- بے خطر کود پڑا آتشِ نمرود میں عشق
عقل ہے محوِ تماشائے لبِ بام ابھی

اس شعر میں کس ترکیب کو تلمیح کی مثال کہا جا سکتا ہے؟

(ا) محوِ تماشا (ب) لبِ بام

(ج) آتشِ نمرود (د) کود پڑنا

48- آ رہی ہے چاہ یوسف سے صدا
دوست یاں تھوڑے ہیں اور بھائی بہت

اس شعر میں "چاہِ یوسف" کونسی شعری اصطلاح ہے؟

(ا) تشبیہ (ب) استعارہ

(ج) کنایہ (د) تلمیح

49- کسی شعر یا عبارت میں "طوفانِ نوح" کا ذکر آئے تو اسے کیا کہیں گے؟

(ا) تلمیح (ب) تشبیہ

(ج) قافیہ (د) ردیف

50- کسی شعر یا عبارت میں کسی آیت یا حدیث کی طرف اشارہ ہو تو اسے کیا کہیں گے؟

(ا) تشبیہ (ب) استعارہ

(ج) تلمیح (د) مجازِ مرسل

جوابات

-1	ب	-2	الف	-3	الف	-4	د	-5	د
-6	الف	-7	ب	-8	الف	-9	ج	-10	ب
-11	الف	-12	الف	-13	ب	-14	ب	-15	ج
-16	الف	-17	ب	-18	د	-19	د	-20	ب
-21	د	-22	الف	-23	الف	-24	ب	-25	الف
-26	ب	-27	الف	-28	ب	-29	ج	-30	الف
-31	ب	-32	د	-33	ب	-34	الف	-35	ب
-36	د	-37	ج	-38	الف	-39	ب		ب

ج	45-	ب	44-	الف	43-	ج	42-	د	41-
ج	50-	الف	49-	د	48-	ج	47-	الف	46-

مطلع، مقطع، ردیف، قافیہ

1- **مطلع کس زبان کا لفظ ہے؟**

(ا) فارسی (ب) عربی

(ج) عبرانی (د) اُردو

2- **مطلع کے لغوی معنی کیا ہیں؟**

(ا) طلوع ہونا (ب) طلوع ہونے کی جگہ

(ج) غروب ہونا (د) غروب ہونے کی جگہ

3- **مطلع کے اصطلاحی معنی کیا ہیں؟**

(ا) غزل یا قصیدے کا پہلا شعر جس کے دونوں مصرعے ہم ردیف و ہم قافیہ ہوں

(ب) غزل یا قصیدے کا آخری شعر جس کے دونوں مصرعے ہم ردیف و ہم قافیہ ہوں

(ج) غزل یا قصیدے کا پہلا شعر

(د) غزل یا قصیدے کا آخری شعر

4- **اگر غزل یا قصیدے کے پہلے شعر کے دونوں مصرعے ہم ردیف اور ہم قافیہ ہوں تو اسے کہیں گے:**

(ا) مطلع (ب) مقطع

(ج) ردیف (د) قافیہ

5- **اگر غزل یا قصیدے کے پہلے شعر کے دونوں مصرعے ہم ردیف اور ہم قافیہ نہ ہوں تو اسے کہیں گے:**

(ا) مطلع (ب) مقطع

(ج) مطلع ثانی (د) پہلا شعر

6- **اگر غزل یا قصیدے کا دوسرا شعر بھی ہم ردیف اور ہم قافیہ ہو تو اسے کہیں گے:**

(ا) مطلع (ب) مقطع

(ج) مطلع ثانی (د) مطلع اوّل

7- **اگر غزل یا قصیدے کا تیسرا شعر بھی ہم ردیف اور ہم قافیہ ہو تو اسے کہیں گے:**

(ا) مطلع (ب) مطلع اوّل

(ج) مطلع ثانی (د) مطلع ثالث

8- **غزل یا قصیدے کے پہلے شعر کے دونوں مصرعوں میں قافیہ کے بعد ردیف نہ ہو تو:**

(ا) مطلع نہیں ہوگا (ب) مطلع ہوگا

(ج) ایسا نہیں ہو سکتا (د) قافیہ ہوگا

9- **غزل یا قصیدہ کے پہلے شعر میں اگر قافیہ نہ ہو تو:**

(ا) تب بھی مطلع کہ (ب) مطلع نہیں کہیں گے

(ج) ردیف ہوگی (د) وہ شعر ہی نہیں سمجھا جائے گا

-10 ابن مریم ہوا کرے کوئی
میرے دکھ کی دوا کرے کوئی
اس شعر کے دونوں مصرعوں میں ردیف اور قافیہ موجود ہیں اس کو اصطلاح میں کیا کہیں گے؟
(ا) غزل کا پہلا شعر (ب) مطلع
(ج) مقطع (د) قافیہ

-11 گلزار ہست و بود نہ بیگانہ وار دیکھ
ہے دیکھنے کی چیز اسے بار بار دیکھ
اقبال کی غزل کے اس پہلے شعر کو اصلاح میں کیا کہیں گے؟
(ا) مطلع (ب) مقطع
(ج) ردیف (د) قافیہ

-12 آیا ہے تو جہاں میں مثال شرار دیکھ
دم دے نہ جائے ہستی ناپائیدار دیکھ
اقبال کی اس غزل کے اس دوسرے شعر کو کہیں گے:
(ا) مطلع (ب) مطلع اوّل
(ج) مطلع ثانی (د) مقطع

-13 عجب واعظ کی دینداری ہے یارب
عداوت ہے اسے سارے جہاں سے
اقبال کی غزل کا یہ پہلا شعر ہے لیکن اس کے دونوں مصرعے ہم ردیف اور ہم قافیہ نہیں، اسے کہیں گے:
(ا) مطلع (ب) غزل کا پہلا شعر
(ج) مطلع ثانی (د) مطلع ثالث

-14 متاع بے بہا ہے درد و سوز آرزو مندی
مقام بندگی دے کر نہ لوں شان خداوندی
اقبال کی ایک غزل کا یہ پہلا شعر ہے جس کے دونوں مصرعے ہم قافیہ ہیں لیکن یہ شعر ردیف سے خالی ہے، اسے کہیں گے:
(ا) مطلع (ب) مطلع اوّل
(ج) مطلع ثانی (د) مطلع نہیں کہیں گے

-15 مقطع کس زبان کا لفظ ہے؟
(ا) اردو (ب) عربی
(ج) فارسی (د) ترکی

-16 مقطع کے لغوی معنی کیا ہیں؟
(ا) آخری شعر (ب) کاٹنا
(ج) کاٹنے کی جگہ (د) کٹا ہوا

17- مقطع کے اصطلاحی معنی ہیں:
(ا) غزل یا قصیدے کا آخری شعر
(ب) غزل یا قصیدے کا وہ شعر جس میں تخلص ہو
(ج) غزل یا قصیدے کا آخری شعر جس میں شاعر نے اپنا تخلص استعمال کیا ہو
(د) غزل یا قصیدے کا وہ پہلا شعر جس میں شاعر کا تخلص ہو

18- غزل یا قصیدے کے آخری شعر میں اگر شاعر اپنا تخلص استعمال کرے تو اسے کہیں گے:
(ا) مقطع
(ب) مطلع
(ج) آخری شعر
(د) تخلص والا شعر

19- غزل یا قصیدے کے آخری سے پہلے کسی شعر میں تخلص آئے تو اسے کہیں گے:
(ا) مقطع
(ب) مطلع
(ج) آخری سے پہلا شعر
(د) تخلص والا شعر

20- غزل یا قصیدے کے مطلع میں اگر شاعر اپنا تخلص استعمال کرے تو اسے کہیں گے:
(ا) مطلع
(ب) مقطع
(ج) پہلا شعر
(د) تخلص والا شعر

21- نہیں کھیل اے داغؔ! یاروں سے کہہ دو
کہ آتی ہے اردو زباں آتے آتے
اس شعر کو کہیں گے:
(ا) مطلع
(ب) مقطع
(ج) پہلا شعر
(د) آخری شعر

22- میرؔ ان نیم باز آنکھوں میں
ساری مستی شراب کی سی ہے
یہ شعر میر کی غزل کا آخری شعر ہے اور اس میں تخلص بھی استعمال ہوا ہے، اسے کہیں گے:
(ا) مقطع
(ب) آخری شعر
(ج) تخلص والا شعر
(د) ہم قافیہ شعر

23- ہم ہوئے تم ہوئے کہ میرؔ ہوئے
اس کی زلفوں کے سب اسیر ہوئے
میر کی ایک غزل کا یہ پہلا شعر جس میں تخلص آیا ہے، اسے کہیں گے:
(ا) مقطع
(ب) پہلا شعر
(ج) مطلع
(د) تخلص والا شعر

24- ردیف کس زبان کا لفظ ہے؟
(ا) اردو
(ب) فارسی
(ج) ہندی
(د) عربی

25- ردیف کے لغوی معنی کیا ہیں؟

(ا) گھڑسوار کے پیچھے بیٹھنے والا (ب) آگے آگے چلنے والا
(ج) پیچھے چلنے والا (د) پیچھے آنے والا

26- ردیف کے اصطلاحی معنی کیا ہیں؟
(ا) ہم وزن اور ہم آواز الفاظ (ب) قافیے سے پہلے آنے والے الفاظ
(ج) وہ الفاظ ہر شعر کے دوسرے مصرعے میں قافیے کے بعد بار بار دہرائے جاتے ہیں (د) ہر شعر کے آخر میں آنے والے الفاظ

27- کیا غزل یا قصیدے کے لئے ردیف ضروری ہے؟
(ا) ضروری ہے (ب) ضروری نہیں
(ج) ضروری نہیں لیکن اس سے موسیقیت بڑھ جاتی ہے (د) قافیے کی عدم موجودگی میں ضروری ہے۔

28- دلِ ناداں تجھے ہوا کیا ہے
آخر اس درد کی دوا کیا ہے
غالب کی غزل کے اس مطلع میں ردیف کی نشاندہی کیجیے:
(ا) دلِ ناداں (ب) ہوا، دوا
(ج) درد (د) کیا ہے

29- میں نے مانا کہ کچھ نہیں غالب
مفت ہاتھ آئے تو برا کیا ہے
غالب کی غزل کے اس مقطع میں ردیف کی نشاندہی کیجیے:
(ا) غالب (ب) مفت
(ج) برا (د) کیا ہے

30- ردیف مطلع کے دونوں مصرعوں کے علاوہ کہاں آتی ہے؟
(ا) ہر شعر کے دوسرے مصرعے میں (ب) ہر شعر کے پہلے مصرعے میں
(ج) ہر مصرعے میں (د) صرف مقطع میں

31- قافیہ کس زبان کا لفظ ہے؟
(ا) فارسی (ب) عربی
(ج) اُردو (د) سنسکرت

32- قافیہ کے لغوی معنی کیا ہیں؟
(ا) پیچھے پیچھے آنے والا (ب) آگے آنے والا
(ج) پہلے آنے والا (د) بعد میں آنے والا

33- قافیہ کے اصطلاحی معنی کیا ہیں؟
(ا) بار بار دہرائے جاتے والے الفاظ (ب) شعر کے ابتدائی الفاظ
(ج) وہ ہم وزن و ہم آواز الفاظ جو شعر کے ہر دوسرے مصرعے کے آخر میں ردیف سے پہلے آتے ہیں (د) ہر مصرعے کے آخر میں آنے والے الفاظ

34- ردیف نہ ہونے کی صورت میں شعر میں قافیہ کہاں آتا ہے؟

(ا) بالکل شروع میں (ب) آخر میں

(ج) درمیان میں (د) نہیں آتا

35- قافیہ کتنے الفاظ پر مشتمل ہوتا ہے؟

(ا) ایک (ب) دو

(ج) تین (د) چار

36- ردیف کتنے الفاظ پر مشتمل ہوتی ہے؟

(ا) ایک (ب) دو

(ج) تین (د) ایک یا ایک سے زیادہ

37- مطلع کے علاوہ قافیہ کہاں استعمال ہوتا ہے؟

(ا) ہر مصرعے میں (ب) ہر مصرعے کے آخر میں

(ج) ردیف کے بعد (د) ہر شعر کے دوسرے مصرعے میں ردیف سے پہلے

38- یہ آرزو تھی تجھے گل کے روبرو کرتے
ہم اور بلبل بے تاب گفتگو کرتے!

اس شعر میں قافیہ کیا ہے؟

(ا) بلبل (ب) گل

(ج) کرتے (د) روبرو، گفتگو

39- پیام بر نہ میسر ہوا تو خوب ہوا
زبان غیر سے کیا شرح آرزو کرتے

اس شعر میں قافیے کی نشاندہی کیجیے:

(ا) پیام بر (ب) آرزو

(ج) زبان (د) خوب

40- وہ ہم وزن اور ہم آواز الفاظ جو شعر میں ردیف سے پہلے آتے ہیں کیا کہلاتے ہیں؟

(ا) مطلع (ب) مقطع

(ج) ردیف (د) قافیہ

جوابات

-1	ب	-2	ب	-3	الف	-4	الف	-5	د
-6	ج	-7	د	-8	ب	-9	د	-10	ب
-11	الف	-12	ج	-13	ب	-14	الف	-15	ب
-16	ج	-17	ج	-18	الف	-19	د	-20	الف
-21	ب	-22	الف	-23	ج	-24	د	-25	الف

الف	-30	د	-29	د	-28	ج	-27	ج	-26
الف	-35	ب	-34	ج	-33	الف	-32	ب	-31
د	-40	ب	-39	د	-38	د	-37	د	-36

غیر حقیقی تذکیر و تانیث

☆ مندرجہ ذیل جملوں میں سے تذکیر و تانیث کے درست جوابات کی نشاندہی کریں۔

-1 اخبار:

(ا) میں نے آج کی تازہ اخبار پڑھی
(ب) میں نے آج کا تازہ اخبار پڑھا
(ج) میں نے تازہ اخبار پڑھی
(د) میں نے تازہ اخبار پڑھی ہے

-2 سائیکل:

(ا) اس کی سائیکل گم ہو گئی ہے
(ب) اس کا سائیکل گم ہو گیا ہے
(ج) اس کا بائیسکل گم ہو گیا ہے
(د) اس کا سائیکل گم ہو چکا ہے

-3 درد:

(ا) میرے سر میں درد ہو رہی ہے
(ب) میرے سر میں درد ہوتی رہتی ہے
(ج) میرے سر میں درد رہتی ہے
(د) میرے سر میں درد ہو رہا ہے۔

-4 جھاڑو:

(ا) بھنگی نے آج جھاڑو نہیں دیا
(ب) بھنگن نے آج جھاڑو نہیں دیا
(ج) بھنگی نے آج جھاڑو نہیں دی
(د) خاکروب نے آج جھاڑو نہیں دیا

-5 ہوش:

(ا) میں نے جب ہوش سنبھالی
(ب) میں نے جب ہوش سنبھالا
(ج) میں نے جب ہوش سنبھالی خود کو ہسپتال پایا
(د) ہوش سنبھالتے ہی میں اٹھ بیٹھا

-6 چھت:

(ا) ہمارے کمرے کی چھت ٹپکتی ہے
(ب) ہمارے کمرے کا چھت ٹپکتا ہے
(ج) ہمارے مکان کا چھت ٹپکتا ہے
(د) ہمارے چھت میں سوراخ ہے

-7 تار:

(ا) مجھے ابھی کراچی سے تار آیا ہے
(ب) مجھے ابھی کراچی سے تار آئی ہے
(ج) مجھے ابھی کراچی سے تار ملی ہے
(د) مجھے ابھی کراچی سے تار آئی ہے

-8 فکر:

(ا) آپ کو اپنے بیٹے کا بہت فکر ہے
(ب) آپ کو اپنے بیٹے کی بہت فکر ہے
(ج) آپ کو اپنے بیٹے کی صحت کا بہت فکر ہے
(د) آپ اپنے بیٹے کے بارے میں فکر مند ہیں

-9 اُردو:

(ا) حمید اچھا اُردو بولتا ہے
(ب) حمید اچھا اُردو بولتی ہے

(ج) حمیدا چھی اردو بولتی ہے

(د) حمید اچھی اردو بولتا ہے

10- راہ:

(ا) اکرم ایک گھنٹے سے آپ کی راہ دیکھ رہا ہے

(ب) اکرم ایک گھنٹے سے آپ کا راہ دیکھ رہا ہے

(ج) اکرم ایک گھنٹے سے آپ کے راہ پر بیٹھا ہے

(د) اکرم ایک گھنٹے سے آپ کا راستہ دیکھ رہا ہے

11- ٹکٹ:

(ا) سیالکوٹ کے پانچ ٹکٹ خرید لو

(ب) سیالکوٹ کی پانچ ٹکٹیں خرید لو

(ج) سیالکوٹ کے لئے پانچ ٹکٹیں لے لو

(د) سیالکوٹ کی پانچ ٹکٹ لے لو

12- انتظار:

(ا) مجھے دن بھر تمہاری انتظار رہی

(ب) مجھے کل سے تمہاری انتظار تھی

(ج) مجھے دن بھر تمہارا انتظار رہا

(د) میں دن بھر تمہاری انتظار میں رہا

13- کیچڑ:

(ا) بارش سے ہر جگہ کیچڑ ہو گیا ہے

(ب) بارش سے ہر جگہ کیچڑ ہو گئی ہے

(ج) بارش نے ہر جگہ کیچڑ کر دیا ہے

(د) بارش کی وجہ سے ہر جگہ کیچڑ ہو چکا ہے

14- دہی:

(ا) کھٹا دہی نہیں کھانا چاہئے

(ب) کھٹی دہی نہیں کھانا چاہئے

(ج) کھٹی دہی نہیں کھانی چاہئے

(د) دہی میٹھی ہو یا کھٹی کھا لینا چاہئے

15- گیند:

(ا) تمہارا گیند کہاں ہے؟

(ب) تمہاری گیند کہاں ہے؟

(ج) کیا تمہارا گیند گم ہو چکا ہے؟

(د) میرا گیند گم نہیں ہوا

16- پیاز:

(ا) دس روپے کا پیاز لاؤ

(ب) دس روپے کا پیاز نہیں آتا

(ج) پچاس روپے کی پیاز لاؤ

(د) آدھ سیر پیاز لانا تھا

17- گھاس:

(ا) صبح کے وقت ہرا ہرا گھاس اچھا لگتا ہے

(ب) صبح کے وقت سبز سبز گھاس اچھا لگتا ہے

(ج) صبح کے وقت ہرا بھرا گھاس اچھا لگتا ہے

(د) صبح کے وقت ہری بھری گھاس اچھی لگتی ہے

18- ناک:

(ا) خالد میاں کی ناک چپٹی ہے

(ب) خالد میاں کا ناک چپٹا ہے

(ج) خالد میاں کا ناک چپٹا نہیں ہے

(د) خالد میاں کا ناک سیدھا ہے

19- میل:

(ا) صابن سے جسم کی میل صاف ہو جاتی ہے

(ب) صابن سے جسم کا میل صاف ہو جاتا ہے

(ج) صابن سے جسم کی میل نہیں اترتی

(د) صابن سے کپڑوں کی میل نکل جاتی ہے

20- قمیض:

31- قلم:
(ا) اس نے گلاب کی قلم لگائی
(ب) اس نے گلاب کا قلم لگایا
(ج) اس نے گلاب میں قلم لگایا
(د) اس نے گلاب کے قلم کا پیوند لگایا

32- اودھم:
(ا) لڑکوں نے اودھم مچا رکھی ہے
(ب) لڑکوں نے اودھم مچا رکھا ہے
(ج) لڑکوں نے اودھم مچایا ہوا ہے
(د) لڑکیوں نے اودھم مچا رکھا ہے

33- قمیض:
(ا) اس کی نئی قمیض پھٹ گئی
(ب) اس کا نیا قمیض پھٹ گیا
(ج) اس نے نئی قمیض سلوائی
(د) اس نے نئی قمیض خریدی تھی

34- گوند:
(ا) ایک پاؤ گوند خرید لاؤ
(ب) دس روپے کی گوند خرید لاؤ
(ج) دس روپے کا گوند خرید لاؤ
(د) کتاب کو گوند سے جوڑ دو

35- املا:
(ا) اس کی املا درست نہیں
(ب) اس کا املا درست نہیں
(ج) اس کی املا غلط ہے
(د) اس کے ہاں املا کی غلطیاں ہیں

36- فوٹو:
(ا) آپ کی یہ فوٹو اچھی نہیں لگتی
(ب) آپ کا یہ فوٹو اچھا نہیں لگتا
(ج) آپ کی یہ فوٹوگراف اچھی نہیں لگتی
(د) آپ کی یہ فوٹو اچھی لگتی ہے

37- ضد:
(ا) ضد کرنا اچھی بات نہیں
(ب) ضد کرنی اچھی بات نہیں
(ج) ضد کرنی اچھا عمل نہیں
(د) ضد اچھی چیز نہیں

38- حلف:
(ا) نئی کابینہ نے حلف اٹھالی
(ب) نئی کابینہ نے حلف اٹھالیا
(ج) نئی کابینہ جلد حلف اٹھائے گی
(د) صدر نے کابینہ سے حلف لی

39- کرتوت:
(ا) آپ کے بیٹے کی کرتوتوں نے آپ کو بدنام کیا
(ب) آپ کی کرتوتوں نے آپ کو بدنام کیا
(ج) آپ کے بیٹے کی کرتوت نے آپ کو بدنام کیا
(د) آپ کے بیٹے کے کرتوت نے آپ کو بدنام کیا

40- حیا:
(ا) اس کی آنکھ میں تو حیا نہیں رہی
(ب) اس کی آنکھ میں تو حیا نہیں رہا
(ج) اس کی آنکھوں میں تو حیا نہیں رہا
(د) شرم و حیا اس کے پاس سے بھی نہیں گزرا

41- ترازو:
(ا) اس کا ترازو ٹوٹ گیا
(ب) اس کی ترازو ٹوٹ گئی

(ج) اس کے ترازو ٹوٹ گئے (د) کم تولنے سے اس کا ترازو ٹوٹا

42- لغت:
(ا) وارث سرہندی نے اچھا لغت مرتب کیا ہے (ب) وارث سرہندی نے اچھی لغت مرتب کی ہے
(ج) وارث سرہندی نے اچھے لغت مرتب کیے (د) علمی والوں کی اچھی لغت ہے

☆ تذکیر و تانیث کے حوالے سے مندرجہ ذیل میں سے درست پر نشان لگائیے:

43-
(ا) آپ کے مزاج کیسے ہیں؟ (ب) آپ کی مزاج کیسی ہے؟
(ج) آپ کا مزاج کیسا ہے؟ (د) کیسے اخراج بخیر ہیں؟

44-
(ا) مجھے کھٹے ڈکار آتے ہیں (ب) مجھے کھٹی ڈکاریں آتی ہیں
(ج) مجھے کھٹا ڈکار آتا ہے (د) مجھے کھٹی ڈکار آتی ہے

45-
(ا) نجمہ اس کی بات سن کر ہکی بکی رہ گئی (ب) احمد اس کی بات سن کر ہکا بکا رہ گیا
(ج) وہ اس کی بات سن کر ہکے بکے رہ گئے (د) نجمہ کی بات اس کو ہکا بکا کر گئی

46-
(ا) اس کنویں کا پانی کھارا ہے (ب) اس کنویں کا پانی کھاری ہے
(ج) اس کنویں کے پانی کھارے ہیں (د) اس کنویں میں پانی کھاری ہے

47-
(ا) "پطرس کے مضامین" چھپ گئے ہیں (ب) "پطرس کے مضامین" چھپ گیا ہے
(ج) "پطرس کے مضامین" چھپ گئی ہے (د) "پطرس کے مضامین" چھپتے گئے ہیں

48-
(ا) "خطوط غالب" چھپ چکے ہیں (ب) "خطوط غالب" چھپ چکا ہے
(ج) "خطوط غالب" چھپ چکی ہے (د) "خطوط غالب" چھپ رہے ہیں

49-
(ا) سائرن بجتے ہی ساری فوج چوکنی ہو گئی (ب) سائرن بجتے ہی ساری فوج چوکنا ہو گئی
(ج) سائرن بجتے ہی ساری فوج چوکنے ہو گئے (د) سائرن بجتے ہی فوجی چوکنے ہو گئے

50- روزنامہ "نوائے وقت" لاہور سے شائع:
(ا) ہوتا ہے (ب) ہوتی ہے
(ج) ہوتے ہیں (د) ہو گی

51- اکرم نے اونٹ کو نکیل:
(ا) ڈالا (ب) ڈالی
(ج) ڈالے (د) ڈلوایا

52- عمران کے محلے کی ایک عورت تو بہت ہی:

(ا) لڑاکی ہے (ب) لڑاکا ہے
(ج) لڑاکو ہے (د) لڑاکے ہے

جوابات

-1	ب	-2	الف	-3	د	-4	ج	-5	ب
-6	الف	-7	الف	-8	ب	-9	د	-10	الف
-11	الف	-12	ج	-13	ب	-14	الف	-15	ب
-16	ج	-17	د	-18	الف	-19	ب	-20	ج
-21	الف	-22	ب	-23	ج	-24	ب	-25	ب
-26	الف	-27	ب	-28	د	-29	ج	-30	ب
-31	الف	-32	الف	-33	ب	-34	ج	-35	ب
-36	ب	-37	الف	-38	ب	-39	د	-40	الف
-41	ب	-42	الف	-43	ج	-44	ب	-45	ب
-46	الف	-47	ج	-48	ج	-49	ب	-50	الف
-51	ب	-52	ب						

☆☆☆☆☆☆☆☆☆

مطابقت کے اصولوں کے پیش نظر فقرات کی درستی

(مطابقت اور حروف کا درست استعمال)

☆ مندرجہ ذیل جملوں میں سے تذکیر و تانیث کے حوالے سے درست جوابات کی نشاندہی کریں۔

1- قلم دوات ٹوٹ............۔

(ا) گئے (ب) گئی
(ج) گئیں (د) گیا

2- اس کا گھر، جائیداد اور گاڑی سب کچھ بک............۔

(ا) گئے (ب) گئی
(ج) گئیں (د) گیا

3- قلم اور دوات یہاں............ ہے۔

(ا) رکھی (ب) رکھے
(ج) رکھا (د) رکھیں

4- یہ گھوڑا گاڑی کس............ ہے؟

(ا) کی — (ب) کے
(ج) کو — (د) کا

5- میرے سر میں درد ....

(ا) ہو رہی ہے — (ب) ہو رہے ہیں
(ج) ہو رہیں ہے — (د) ہو رہا ہے

6- دیوانِ غالب چھپ .... ہے

(ا) گیا — (ب) گئے
(ج) گئی — (د) گئیں

7- ماہنامہ "نوائے ملت" بند ہو .... ہے

(ا) گئے — (ب) گئی
(ج) گیا — (د) گئیں

8- درخت سے طوطے اور چڑیاں اُڑ ....

(ا) گئی — (ب) گئیں
(ج) گئے — (د) گیا

9- یہ عورت بڑی .... ہے

(ا) لڑاکی — (ب) لڑاکو
(ج) لڑاکن — (د) لڑاکا

10- آپ ہمارے گھر کب .... گے؟

(ا) آئیں — (ب) آؤ
(ج) آئے — (د) آ گئے

11- امتحان میں وہ ضرور نقل .... گا۔

(ا) کرے — (ب) لگائے
(ج) کروں — (د) فرمائے

12- اسلم، اکرم اور اقبال بازار ....

(ا) چلا گیا ہے — (ب) چلے گئے ہیں
(ج) چلے گئیں ہیں — (د) چلے گئی ہے

13- "مکاتیب اقبال" چھپ ....

(ا) گئے ہیں — (ب) گئی ہے
(ج) گئیں ہیں — (د) گیا ہے

14- غوثیہ نے کتاب، قلم اور پنسل ....

(ا) خریدا — (ب) خریدے
(ج) خریدی — (د) خریدی

15- اسلم اور اس کی ماں بازار ....۔
(ا) گئے (ب) گئی
(ج) گیا (د) گئیں

16- گھر ماں کی سلطنت ....۔
(ا) ہوتی ہے (ب) ہوتیں
(ج) ہوتا ہوں (د) ہوا ہے

17- اکرم نے کتاب، قلم اور کاپی ....۔
(ا) خریدا (ب) خریدے
(ج) خریدی (د) خرید لیا

18- اکبر نے وقت ضائع کیا .... وہ ناکام رہا۔
(ا) اس لیے (ب) کیونکہ
(ج) البتہ (د) لیکن

19- اگر وہ آتا .... میں اس کی مدد کرتا۔
(ا) پھر (ب) تب
(ج) تو (د) لیکن

20- مال، دولت، جائیداد کچھ نہ ....۔

(ا) رہی (ب) رہا
(ج) رہے (د) رہ گیا

21- میں نے آج اخبار نہیں ....۔
(ا) پڑھی (ب) پڑھے
(ج) سنا (د) پڑھا

22- ایسی باتوں سے رعب و وقار ....۔
(ا) جاتے رہتے ہیں (ب) جاتا رہتا ہیں
(ج) جاتی رہتی ہے (د) جاتا رہتا ہے

23- غم اور مفلسی انسان کی صلاحیتوں کو گھنا ....۔
(ا) دیتی ہے (ب) دیتا ہوں
(ج) دی جاتی ہے (د) دیتے ہیں

24- احمد اور نوید دونوں ....۔
(ا) چلا گیا (ب) چلی گئے
(ج) چلے گئے (د) چل گئے

25- اس کا مال، جائیداد، دکانیں سب بک ....۔
(ا) گیا (ب) گئے

(ج) گئی   (د) گئیں

26- اس کی عزت، شہرت اور وقار سب کچھ .... ۔

(ا) جاتا رہا   (ب) جاتے رہے

(ج) جاتی رہی   (د) جاتے رہا

27- قمیص شلوار الماری میں .... ۔

(ا) رکھے ہیں   (ب) رکھا ہے

(ج) رکھی ہیں   (د) رکھی ہے

28- ماموں اور بھانجا .... ۔

(ا) لڑ پڑا   (ب) لڑ پڑیں

(ج) لڑ پڑے   (د) لڑ پڑاؤ

29- عورتوں نے کہا ہم .... ۔

(ا) آتی ہیں   (ب) آتے ہیں

(ج) آئیں ہیں   (د) آتی ہے

30- میں نے یہاں کے آموں کو .... ۔

(ا) میٹھا پایا   (ب) میٹھے پائے

(ج) میٹھا پائے   (د) میٹھے پائیں

جوابات

1-	ب	2-	د	3-	الف	4-	الف	5-	د
6-	ج	7-	ج	8-	ب	9-	د	10-	الف
11-	الف	12-	ب	13-	ب	14-	ج	15-	الف
16-	د	17-	ج	18-	الف	19-	ج	20-	ب
21-	د	22-	ب	23-	د	24-	ج	25-	ب
26-	الف	27-	د	28-	ج	29-	ب	30-	الف

☆☆☆☆

امدادی افعال کا جملوں میں استعمال (حروف کا صحیح استعمال)

1- وہ حروف جو فعل کا تعلق فاعل کے ساتھ اور اسم کا خبر کے ساتھ ربط قائم کریں، کہلاتے ہیں:

(ا) حروفِ علت   (ب) حروفِ اضافت

(ج) حروفِ جار   (د) حروفِ عطف

2- وہ حروف جو دو اسموں یا دو جملوں کو آپس میں ملا دیں، کہلاتے ہیں:

(ا) حروفِ بیان   (ب) حروفِ عطف

(ج) حروف جار (د) حروف علت

-3 وہ حروف جو کسی وجہ یا سبب کو ظاہر کریں، کہلاتے ہیں:

(ا) حروف انبساط (ب) حروف تاکید

(ج) حروف بیان (د) حروف علت

-4 وہ حروف جو دو اسموں کا آپس میں تعلق پیدا کریں، کہلاتے ہیں:

(ا) حروف جار (ب) حروف اضافت

(ج) حروف قسم (د) حروف علت

-5 وہ حروف جو کسی وضاحت کے لیے استعمال کیے جائیں، کہلاتے ہیں:

(ا) حروف بیان (ب) حروف جار

(ج) حروف شرط (د) حروف توجہ

-6 وہ حروف جو ایک چیز کو دوسری چیز جیسا ظاہر کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، کہلاتے ہیں:

(ا) حروف تحسین (ب) حروف استعارہ

(ج) حروف شرط (د) حروف تشبیہ

-7 وہ حروف جو شرط کے موقع پر بولے جاتے ہیں، کہلاتے ہیں:

(ا) حروف شرط (ب) حروف جار

(ج) حروف عطف (د) حروف تاسف

-8 وہ حروف جو کسی کو پکارنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، کہلاتے ہیں:

(ا) حروف استفہام (ب) حروف قسم

(ج) حروف ندا (د) حروف تحسین

-9 ایسے حروف جو کچھ پوچھنے یا دریافت کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، کہلاتے ہیں:

(ا) حروف شرط (ب) حروف استفہام

(ج) حروف ندا (د) حروف علت

-10 وہ حروف جو کسی چیز، بات، شخص یا جگہ کی تعریف کے لیے بولے جاتے ہیں، کہلاتے ہیں:

(ا) حروف تحسین (ب) حروف تحقیق

(ج) حروف جار (د) حروف تاکید

-11 ایسے حروف جو نفرت یا حقارت کے اظہار کے لیے استعمال ہوتے ہیں، کہلاتے ہیں:

(ا) حروف اضافت (ب) حروف تاکید

(ج) حروف تردید (د) حروف نفرین

-12 وہ حروف جو کسی بات یا چیز کو رد کرنے کے موقع پر استعمال ہوتے ہیں، کہلاتے ہیں:

(ا) حروف نفرین (ب) حروف تردید

(ج) حروف جار (د) حروف شرط

-13 وہ حروف جو ایک کلمے یا جملے کو دوسرے کلمے یا جملے سے خارج یا مستثنیٰ کرتے ہیں، کہلاتے ہیں:

(ا) حروف اخراج (ب) حروف استفہام

(ج) حروف تردید (د) حروف استثنا

-14 وہ حروف جو دو جملوں کے درمیان آ کر پہلے جملے کے شک کو دور کرتے ہیں، کہلاتے ہیں:

(ا) حروف استدراک (ب) حروف استثنا

(ج) حروف اضافت (د) حروف علت

15- وہ حروف جو افسوس کے موقع پر بولے جاتے ہیں' کہلاتے ہیں:

(ا) حروف تاسف (ب) حروف افسوس

(ج) حروف نفریں (د) حروف انبساط

16- وہ حروف جو خوشی کے موقع پر بولے جاتے ہیں' کہلاتے ہیں:

(ا) حروف تاسف (ب) حروف انبساط

(ج) حروف تحسین (د) حروف عطف

17- وہ حروف جو کہ تاکید کے لیے استعمال ہوتے ہیں' کہلاتے ہیں:

(ا) حروف لازمی (ب) حروف تاکید

(ج) حروف تحسین (د) حروف تردید

18- وہ حروف جو پناہ مانگنے یا کسی فعل سے باز رہنے کا اقرار کرتے وقت بولے جاتے ہیں' کہلاتے ہیں:

(ا) حروف ایجاب (ب) حروف قسم

(ج) حروف تردید (د) حروف توبہ

19- وہ حروف جو کسی کو دھمکانے یا خبردار کرنے کے لیے بولے جاتے ہیں' کہلاتے ہیں:

(ا) حروف تنبیہ (ب) حروف شرط

(ج) حروف استفہام (د) حروف تردید

20- وہ حروف جو جواب دینے یا کسی بات کا اقرار کرنے کے لیے بولے جاتے ہیں' کہلاتے ہیں:

(ا) حروف اقرار (ب) حروف تحقیق

(ج) حروف ایجاب (د) حروف انکار

21- وہ حروف جو حیرانی کو ظاہر کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں' کہلاتے ہیں:

(ا) حروف تعجب (ب) حروف تحقیق

(ج) حروف تاسف (د) حروف تاکید

22- وہ حروف جو اسم یا فعل کے ساتھ مل کر کوئی خصوصیت پیدا کرتے ہیں' کہلاتے ہیں:

(ا) حروف شرط (ب) حروف جار

(ج) حروف اضافت (د) حروف تخصیص

23- وہ حروف جو رفع شک اور اظہار حقیقت کے لیے بولے جاتے ہیں' کہلاتے ہیں:

(ا) حروف قسم (ب) حروف تحقیق

(ج) حروف شرط (د) حروف تردید

24- وہ حروف جو قسم کے لیے استعمال ہوتے ہیں' کہلاتے ہیں:

(ا) حروف قسم (ب) حروف تاکید

(ج) حروف استثنا (د) حروف توبہ

25- وہ حروف جو اندازہ و مقدار کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں' کہلاتے ہیں:

(ا) حروف شرط (ب) حروف بیان

(ج) حروف مقدار (د) حروف شک و ظن

26- وہ حروف جو کسی لفظ کے معنی یا کلام کے مطلب کو بہ صراحت بیان کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں' کہلاتے ہیں:

(ا) حروف مناجات (ب) حروف معنی

(ج) حروفِ تفسیر (د) حروفِ شرط

27- وہ حروف جو کسی بات کے ہونے یا نہ ہونے میں شک ظاہر کریں' کہلاتے ہیں:

(ا) حروفِ مفاجات (ب) حروفِ شرط

(ج) حروفِ تاکید (د) حروفِ شک و ظن

28- وہ حروف جن سے کسی امر کا اچانک اور اتفاقاً واقع ہونا ظاہر ہو' کہلاتے ہیں:

(ا) حروفِ شرط (ب) حروفِ مفاجات

(ج) حروفِ تحقیق (د) حروفِ تردید

جوابات

1-	ج	2-	ب	3-	د	4-	ب	5-	الف
6-	د	7-	الف	8-	ج	9-	ب	10-	الف
11-	د	12-	ب	13-	د	14-	الف	15-	الف
16-	ب	17-	ب	18-	د	19-	الف	20-	ج
21-	الف	22-	د	23-	ب	24-	الف	25-	ج
26-	ج	27-	د	28-	ب				

رموزِ اوقاف

1- وہ اشارے یا علامتیں جو کسی عبارت کے ایک جملے کو دوسرے جملے یا کسی جملہ کے ایک حصہ کو اس کے باقی حصوں سے الگ کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں' کہلاتی ہیں:

(ا) علامتِ ترک (ب) امدادی افعال

(ج) حروفِ عطف (د) رموزِ اوقاف

2- وہ علامت جو کسی جملہ کے مکمل یا ختم ہونے کے بعد لگائی جاتی ہے' کہلاتی ہے:

(ا) سوالیہ (ب) وقفہ

(ج) ختمہ (د) ندائیہ

3- ایسی علامت جس پر ہلکا سا توقف کر کے آگے جانا ہوتا ہے' کہلاتی ہے:

(ا) سکتہ (ب) خط

(ج) وقفہ (د) ندائیہ

4- وہ علامت جو کسی سوالیہ لفظ یا جملے کے آخر میں لگائی جاتی ہے' وہ ہے:

(ا) تفصیلیہ (ب) قوسین

(ج) وقفہ (د) سوالیہ

5- وہ علامت جو عام طور پر کسی بات کی تفصیلات بتانے سے پہلے استعمال ہوتی ہے' کہلاتی ہے:

(ا) قوسین (ب) ندائیہ

(ج) تفصیلیہ (د) واوین

6- وہ کون سی علامت ہے جو کسی اور کی تحریر کا اقتباس یا کسی کا قول پیش کرتے وقت اس اقتباس یا قول کے شروع اور آخر میں لگائی

جاتی ہے؟

(ا) قوسین (ب) واوین

(ج) تفصیلیہ (د) حاشیہ

-7 وہ کون سی علامت ہے جو کسی کو متوجہ یا کسی جذبے کا اظہار کرتے ہوئے لگائی جاتی ہے؟

(ا) حاشیہ (ب) ندائیہ

(ج) واوین (د) وقفہ

-8 جب سکتہ سے زیادہ ٹھہراؤ کی ضرورت ہو تو کون سی علامت استعمال کی جاتی ہے؟

(ا) رابطہ (ب) وقفہ

(ج) ندائیہ (د) ختمہ

-9 جب عبارت میں وقفے سے زیادہ ٹھہراؤ ظاہر کرنا ہو تو کون سی علامت استعمال کی جاتی ہے؟

(ا) رابطہ (ب) سکتہ

(ج) قوسین (د) ندائیہ

-10 وہ کون سی علامت ہے جو قوسین کے قریب ہے اور کسی لفظ یا جملے کو باقی عبارت سے جدا کرنے کے لیے اس کے شروع اور آخر میں لگائی جاتی ہے؟

(ا) خط (ب) واوین

(ج) وقفہ (د) رابطہ

-11 اگر کسی اقتباس کے کچھ الفاظ حذف کر دینا مقصود ہو تو کون سی علامت استعمال کی جاتی ہے؟

(ا) علامتِ ترک (ب) علامتِ رابطہ

(ج) علامتِ حاشیہ (د) علامتِ حذف

-12 ختمہ کی علامت کون سی ہے؟

(ا) ؛ (ب) !

(ج) ، (د) –

-13 سکتہ کی علامت کون سی ہے؟

(ا) ؛ (ب) ،

(ج) – (د) !

-14 سوالیہ علامت کون سی ہے؟

(ا) ! (ب) ؟

(ج) ؛ (د) " "

-15 تفصیلیہ کی علامت کون سی ہے؟

(ا) " " (ب) :-

(ج) :- (د) :

-16 قوسین کی علامت کون سی ہے؟

(ا) " (ب) """"

(ج) :- (د) ......

-17 واوین کی علامت کون سی ہے؟

(ا) " (ب) """"

(ج) " (د) :

-18 ندائیہ کی علامت کون سی ہے؟

(ا) ؛ (ب) :

(ج) ؟ (د) !

-19 وقفہ کی علامت کون سی ہے؟

(ا) — (ب) !

(ج) ؛ (د) :

-20 رابطہ کی علامت کون سی ہے؟

(ا) ؛ (ب) :

(ج) :- (د) –

-21 خط کی علامت کون سی ہے؟

(ا) ——— (ب) -

(ج) ، (د) :-

-22 علامتِ حذف کون سی ہے؟

(ا) : (ب) ""

(ج) ____ (د) ......

-23 علامتِ تخلص کون سی ہے؟

(ا) ؎ (ب) ؔ

(ج) ؏ (د) ؐ

-24 علامتِ حاشیہ کون سی ہے؟

(ا) ؎ (ب) —

(ج) ؏ (د) ( )

-25 وقفہ کو انگریزی میں کہتے ہیں:

(ا) فل سٹاپ (ب) کالن

(ج) سیمی کالن (د) کوما

جوابات

-1	د	-2	ج	-3	الف	-4	د	-5	ج
-6	ب	-7	ب	-8	ب	-9	الف	-10	الف
-11	د	-12	د	-13	ب	-14	ب	-15	د
-16	الف	-17	ب	-18	د	-19	ج	-20	ب
-21	الف	-22	د	-23	ب	-24	الف	-25	ج

☆☆☆☆☆

معاشرتی علوم (Social Studies)

1. اسلامی جمہوریہ پاکستان کا قیام
(Establishment of Islamic Republic of Pakistan)

□ ہر سوال کے چار متبادل جوابات دیئے گئے ہیں۔ درست جواب پر نشان (✓) لگائیں۔

1- تحریک خلافت کی راہنمائی کرنے والی شخصیت کا نام ہے:

(ا) سرسید احمد خان (ب) علامہ محمد اقبالؒ

(ج) مولانا محمد علی جوہر (د) سر آغا خان

2- توبۃ النصوح ناول کس کی تحریر ہے؟

(ا) ڈپٹی نذیر احمد (ب) مولانا الطاف حسین حالی

(ج) مولانا شبلی نعمانی (د) مولانا ذکاء اللہ

3- نواب سراج الدولہ کا تعلق کس علاقے سے تھا؟

(ا) یوپی (ب) مدراس

(ج) بنگال (د) آسام

4- قاضی محمد عیسیٰ کس صوبے سے تعلق رکھتے تھے؟

(ا) صوبہ سرحد (ب) صوبہ پنجاب

(ج) صوبہ بنگال (د) صوبہ بلوچستان

5- آل انڈیا مسلم لیگ کا قیام کس سال عمل میں آیا؟

(ا) 1885ء (ب) 1906ء

(ج) 1909ء (د) 1940ء

6- جنگ آزادی کس سن میں لڑی گئی؟

(ا) 1850ء (ب) 1857ء

(ج) 1867ء (د) 1877ء

7- 1946ء کی عبوری حکومت میں کتنے مسلم لیگی وزراء شامل تھے؟

(ا) دو (ب) تین

(ج) چار (د) پانچ

8- قانون آزادی ہند منظور ہوا:

(ا) 14 اگست 1947ء (ب) 18 جولائی 1947ء

(ج) 24 اکتوبر 1946ء (د) 3 جون 1947ء

(ا) ریاست حیدرآباد دکن (ب) ریاست جموں و کشمیر

(ج) ریاست مناوادر (د) ریاست جوناگڑھ

-5 اثاثوں میں پاکستان کا حصہ تناسب کے لحاظ سے کیا تھا؟

(ا) 750 ملین روپے (ب) 700 ملین روپے

(ج) 1050 ملین روپے (د) 950 ملین روپے

-6 متحدہ برصغیر میں 1947ء تک کل کتنی آرڈیننس فیکٹریاں کام کر رہی تھیں؟

(ا) 10 (ب) 12

(ج) 16 (د) 20

-7 تقسیم برصغیر سے پہلے ڈوگرہ راج کے خلاف کشمیریوں نے کس سال اپنی آزادی کی جنگ کا آغاز کیا؟

(ا) 1940ء (ب) 1930ء

(ج) 1920ء (د) 1928ء

-8 اقوام متحدہ کے کس ادارے نے 1948ء میں ریاست جموں و کشمیر میں استصواب رائے کرانے کے حق میں قرار دادیں منظور کیں؟

(ا) جنرل اسمبلی (ب) سلامتی کونسل

(ج) تولیتی کونسل (د) عالمی عدالت انصاف

-9 تقسیم برصغیر کے وقت ہندوستان میں کون وائسرائے تھا؟

(ا) لارڈ کرزن (ب) لارڈ ویول

(ج) لارڈ منٹو (د) لارڈ ماؤنٹ بیٹن

-10 بھارت سے سرکاری ملازمین کو لانے کے لیے کس ہوائی کمپنی سے سمجھوتہ ہوا؟

(ا) پی۔آئی۔اے (ب) ٹاٹا ایئر کمپنی

(ج) کریسنٹ ایئرویز (د) اورینٹ ایئرویز

جوابات
Answers

-1	ج	-2	د	-3	ب	-4	الف
-5	الف	-6	ج	-7	ب	-8	ب
-9	د	-10	ب				

3. اسلامی جمہوریہ پاکستان کا جغرافیہ

(Geography of Islamic Republic of Pakistan)

□ ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات دیے گئے ہیں۔ درست جواب پر نشان (✓) لگائیں۔

-1 پاکستان کے جنوب میں کون سا سمندر واقع ہے؟

(ا) خلیج بنگال (ب) بحیرہ عرب
(ج) خلیج فارس (د) بحیرہ قلزم

-2 پہاڑ کی کم سے کم کتنی بلندی ہوتی ہے؟
(ا) 500 میٹر (ب) 800 میٹر
(ج) 600 میٹر (د) 900 میٹر

-3 پاکستان اور چین کی سرحد کے ساتھ کون سا پہاڑی سلسلہ ہے؟
(ا) ہمالیہ (ب) شوالک
(ج) کوہ قراقرم (د) کوہ ہندوکش

-4 کے ٹو کا اصل نام کیا ہے؟
(ا) گڈون آسٹن (ب) کیم ٹو
(ج) کائٹ ٹو (د) کارگل

-5 شاہراہ ریشم کس درہ سے پاکستان کو چین سے ملاتی ہے؟
(ا) درہ خنجراب (ب) درہ خیبر
(ج) درہ ٹوچی (د) درہ گومل

-6 کوہ ہندوکش کی بلند ترین چوٹی ہے:
(ا) نانگا پربت (ب) ترچ میر
(ج) ملکہ پربت (د) ایورسٹ

-7 پاکستان کے جنوب میں کون سا پہاڑی سلسلہ ہے؟
(ا) ہمالیہ (ب) کوہ قراقرم
(ج) کوہ کیرتھر (د) کوہ سفید

-8 28 مئی 1998ء کو پاکستان نے کس پہاڑی سلسلے میں ایٹمی دھماکے کیے؟
(ا) کوہ سفید (ب) چاغی ہلز
(ج) ٹوبہ کاکڑ (د) راس کوہ

-9 پاکستان کا کل رقبہ کتنا ہے؟
(ا) 795095 مربع کلومیٹر (ب) 896096 مربع کلومیٹر
(ج) 696095 مربع کلومیٹر (د) 796096 مربع کلومیٹر

جوابات
Answers

-1	ب	-2	د	-3	ج	-4	الف
-5	الف	-6	ب	-7	ج	-8	ب
-9	د						

4. اسلامی جمہوریہ پاکستان میں آئینی ارتقاء

(Constitutional Development in Islamic Republic of Pakistan)

□ ہر سوال کے چار متبادل جوابات دیے گئے ہیں۔ درست جواب پر نشان (✓) لگائیں۔

1- اسلام میں اقتدار اعلیٰ کا مالک:

(ا) پارلیمنٹ (ب) عوام

(ج) بادشاہ (د) اللہ تعالیٰ

2- قرارداد مقاصد کے مطابق ملک کا نظام ہوگا:

(ا) وحدانی (ب) غیر وفاقی

(ج) وفاقی (د) صدارتی

3- قرارداد مقاصد پاس ہونے کا سن:

(ا) 1947ء (ب) 1948ء

(ج) 1949ء (د) 1946ء

4- بنیادی اصولوں کی کمیٹی کی دوسری رپورٹ 1952ء میں کس نے پیش کی؟

(ا) قائداعظمؒ نے (ب) خواجہ ناظم الدین نے

(ج) لیاقت علی خان نے (د) فیروز خان نون نے

5- دستور پاکستان 1956ء کا نفاذ کب ہوا؟

(ا) 23 مارچ (ب) 14 اگست

(ج) 8 جون (د) 27 اکتوبر

6- دستور پاکستان 1962ء پاس کروانے والے سربراہ مملکت کا نام:

(ا) سکندر مرزا (ب) ایوب خان

(ج) یحییٰ خان (د) چوہدری محمد علی

7- شرعی حدود کا نفاذ کیا:

(ا) ایوب خان نے (ب) صدر ضیاء الحق نے

(ج) محمد خان جونیجو نے (د) ظفر اللہ جمالی نے

8- بنیادی اصولوں کی کمیٹی کی پہلی رپورٹ شائع ہونے کا سن:

(ا) 1948ء (ب) 1949ء

(ج) 1950ء (د) 1951ء

9- انسانی حقوق کا پہلا چارٹر ہے:

(ا) عالمی منشور (ب) اقوام متحدہ کا منشور

(ج) خطبہ حجۃ الوداع (د) فرانس کا دستور

جوابات
Answers

ب	-4	ج	-3	ج	-2	د	-1
ج	-8	ب	-7	ب	-6	الف	-5
						ج	-9

5. اسلامی جمہوریہ پاکستان کا حکومتی ڈھانچہ اور نظام حکومت

(Government Structure and System of Islamic Republic of Pakistan)

□ ہر سوال کے چار متبادل جوابات دیے گئے ہیں۔ درست جواب پر نشان (✓) لگائیں۔

-1 قومی اسمبلی کے ارکان کی کل تعداد:

(ا) 275 (ب) 342

(ج) 237 (د) 100

-2 پاکستان میں سینٹ کے ارکان کی کل تعداد:

(ا) 100 (ب) 63

(ج) 87 (د) 50

-3 قومی اسمبلی کے ارکان کے انتخاب کی مدت:

(ا) 4 سال (ب) 5 سال

(ج) 6 سال (د) 3 سال

-4 مجلس شوریٰ کتنے ایوانوں پر مشتمل ہے؟

(ا) ایک (ب) دو

(ج) تین (د) چار

-5 ملک کا سربراہ ہے:

(ا) فوج کا سربراہ (ب) وزیر اعظم

(ج) صدر (د) گورنر

-6 سپریم کورٹ کا صدر دفتر جس شہر میں ہے:

(ا) اسلام آباد (ب) لاہور

(ج) کراچی (د) پشاور

-7 بنیادی جمہوریت کا نظام جس شخصیت نے لاگو کیا:

(ا) یحییٰ خان (ب) ایوب خان

(ج) ضیاء الحق (د) پرویز مشرف

-8 ضلعی حکومت کا سربراہ:

(ا) ناظم (ب) نائب ناظم

(ج) DCO (د) تحصیل ناظم

9- یونین کونسل کے ارکان کی کل تعداد:

(الف) 12 (ب) 18

(ج) 13 (د) 48

10- نئے لوکل گورنمنٹ کے نظام میں ضلع کی سطح پر محکموں کی تعداد:

(الف) 10 (ب) 12

(ج) 14 (د) 16

جوابات
Answers

-1	ب	-2	الف	-3	ب	-4	ب
-5	ج	-6	الف	-7	ب	-8	الف
-9	ج	-10	ب				

6. اسلامی جمہوریہ پاکستان کی ثقافت

(Culture of Islamic Republic of Pakistan)

□ ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات دیے گئے ہیں۔ درست جواب پر نشان (✓) لگائیں۔

1- برصغیر پر مسلمانوں نے کتنے سال حکومت کی؟

(الف) 500 سال (ب) 800 سال

(ج) 1000 سال (د) 1200 سال

2- شہنشاہ جہانگیر کے دربار سے وابستہ استاد منصور، استاد محمد نادر اور استاد مسعود کا تعلق کس فن سے تھا؟

(الف) موسیقی (ب) خطاطی

(ج) سنگ مرمر (د) مصوری

3- مغلیہ خاندان کا شاہکار "مسجد مہابت خان" پاکستان کے جس شہر میں ہے:

(الف) لاہور (ب) پشاور

(ج) ملتان (د) اٹک

4- 712ء میں مسلمان وادی سندھ میں جس شخصیت کی قیادت میں داخل ہوئے:

(الف) محمود غزنوی (ب) ظہیر الدین بابر

(ج) محمد بن قاسم (د) اورنگ زیب عالمگیر

5- راولپنڈی سے پشاور کا علاقہ کہلاتا ہے:

(الف) گندھارا (ب) وسطی پنجاب

(ج) ٹیکسلا (د) ہڑپہ

6- وادی سندھ کی تہذیب کتنے سال پرانی ہے؟

(ا) 2000 سال | (ب) 3000 سال
(ج) 4000 سال | (د) 5000 سال

-7 ہڑپہ کے کھنڈرات جس ضلع میں واقع ہیں:

(ا) ملتان | (ب) اوکاڑہ
(ج) لاہور | (د) ساہیوال

-8 عبدالرحمٰن چغتائی کا تعلق کس فن سے ہے؟

(ا) فنِ تعمیر | (ب) موسیقی
(ج) مصوری | (د) خطاطی

-9 مشہور راگ "میاں کی ملہار" کے خالق:

(ا) امیر خسرو | (ب) ماسٹر عبداللہ
(ج) تان سین | (د) نثار بزمی

-10 ٹیکسلا کا راولپنڈی سے فاصلہ:

(ا) 10 کلومیٹر | (ب) 20 کلومیٹر
(ج) 30 کلومیٹر | (د) 40 کلومیٹر

جوابات
Answers

-1	ج	-2	د	-3	ب	-4	ج
-5	الف	-6	د	-7	د	-8	ج
-9	ج	-10	د				

7. اسلامی جمہوریہ پاکستان کی زبانیں
(Languages of Islamic Republic of Pakistan)

☐ ہر سوال کے چار متبادل جوابات دیے گئے ہیں۔ درست جواب پر نشان (✓) لگائیں۔

-1 1647ء میں شاہ جہان نے آگرہ کی بجائے جس شہر کو دارالحکومت بنایا:

(ا) مدراس | (ب) کراچی
(ج) ڈھاکہ | (د) دہلی

-2 اردو غزل کا پہلا دیوان جس شاعر نے لکھا:

(ا) بہادر شاہ ظفر | (ب) سلطان محمد قلی قطب شاہ
(ج) مرزا غالب | (د) مولانا الطاف حسین حالی

-3 پنجابی زبان کا سب سے معیاری لہجہ:

(ا) ماجھی | (ب) پوٹھوہاری
(ج) چھاچھی | (د) سرائیکی

4- کشمیری زبان کے تیسرے دور سے متعلق ادب کا ایک نامور نام:

(ا) محمود گامی (ب) حبہ خاتون

(ج) ارنی مال (د) ملا فقیر

5- شاعری کے مجموعہ "شاہ جو رسالو" کے شاعر کا نام:

(ا) خوشحال خان خٹک (ب) وارث شاہ

(ج) مخدوم محمد ہاشم (د) شاہ عبداللطیف بھٹائی

6- پشتو زبان کی پہلی کتاب کا نام:

(ا) پٹہ خزانہ (ب) تذکرۃ الاولیاء

(ج) جٹ دی کرتوت (د) آثار الصنادید

7- اردو ترکی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہیں:

(ا) ساتھ (ب) اسلحہ

(ج) لشکر (د) ادب

8- "مسدس حالی" تحریر کرنے والے شاعر کا نام:

(ا) امیر خسرو (ب) مولانا الطاف حسین حالی

(ج) میر تقی میر (د) خواجہ میر درد

9- قرآن پاک کا پہلا ترجمہ جس زبان میں ہوا:

(ا) پنجابی (ب) کشمیری

(ج) بلوچی (د) سندھی

10- بلوچی زبان میں پہلا مجلہ شائع ہونے کا سن:

(ا) 1940ء میں (ب) 1950ء میں

(ج) 1960ء میں (د) 1970ء میں

جوابات
Answers

1-	د	2-	ب	3-	الف	4-	ب
5-	د	6-	الف	7-	ج	8-	ب
9-	د	10-	ج				

8. قومی یکجہتی اور خوشحالی

(National Integration and Prosperity)

ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات دیے گئے ہیں۔ درست جواب پر نشان (✓) لگائیں۔

1- پاکستان کے لوگوں میں قدرِ مشترک:

(ا) لباس　　　(ب) زبان
(ج) عادات　　　(د) دینِ اسلام

-2 پاکستان معرضِ وجود میں آنے پر رابطے کی زبان:
(ا) انگریزی　　　(ب) ہندی
(ج) اُردو　　　(د) پنجابی

-3 "مشترکہ زبان سے کوئی چیز اہم نہیں ہے جو کہ قومی اتحاد پیدا کرے۔" یہ کس کا قول ہے؟
(ا) قائداعظم　　　(ب) ہٹلر
(ج) ریمزے میور　　　(د) علامہ محمد اقبالؒ

-4 پاکستان میں غربت کی زندگی گزارنے والے افراد:
(ا) 15 فیصد　　　(ب) 35 فیصد
(ج) 25 فیصد　　　(د) 50 فیصد

-5 اسلامی ریاست جس کے سامنے جوابدہ ہوتی ہے:
(ا) مجلس شوریٰ　　　(ب) امیرالمومنین
(ج) اللہ تعالیٰ　　　(د) عوام

جوابات
Answers

-1	د	-2	ج	-3	ج	-4	ب
-5	ج						

9. اسلامی جمہوریہ پاکستان میں معاشی منصوبہ بندی اور ترقی
(Economic Planning and Development in Islamic Republic of Pakistan)

☐ ہر سوال کے چار متبادل جوابات دیے گئے ہیں۔ درست جواب پر نشان (✓) لگائیں۔

-1 قومی معیشت اور عوام کی خوشحالی کے لیے ملکی وسائل کو بہتر طریقے سے استعمال کرنے کا نام ہے:
(ا) معاشی خودکفالت　　　(ب) معاشی منصوبہ بندی
(ج) صنعتی ترقی　　　(د) تجارت

-2 پاکستان میں پچھلے دس سال سے زراعت کے شعبے میں ترقی کی شرح:
(ا) 2.5 فیصد سالانہ　　　(ب) 4.5 فیصد سالانہ
(ج) 5.6 فیصد سالانہ　　　(د) 6.5 فیصد سالانہ

-3 زیادہ تر خشک میوہ جات پاکستان کے کس صوبے میں کاشت ہوتے ہیں؟
(ا) سرحد　　　(ب) پنجاب
(ج) سندھ　　　(د) بلوچستان

-4 2001-02ء میں پاکستان کی برآمدات کا حجم:

(الف) 7.5 بلین　　(ب) 8 بلین
(ج) 8.6 بلین　　(د) 9 بلین

-5 پاکستان کے کتنے فیصد لوگوں کو پینے کا صاف پانی نہیں ملتا؟
(الف) 30%　　(ب) 40%
(ج) 50%　　(د) 60%

-6 پاکستان کا پہلا پانچ سالہ منصوبہ شروع ہونے کا سن:
(الف) 1950ء　　(ب) 1955ء
(ج) 1960ء　　(د) 1965ء

-7 انٹرنیٹ کے ذریعے کاروبار کرنے کو کیا کہتے ہیں؟
(الف) کریڈٹ کارڈ　　(ب) کوریئر
(ج) ای کامرس　　(د) حکمت عملی

-8 اشیاء کی طلب میں اضافے سے:
(الف) قیمتیں بڑھتی ہیں　　(ب) قیمتیں کم ہوتی ہیں
(ج) رسد میں اضافہ ہوتا ہے　　(د) رسد میں کمی ہوتی ہے

جوابات
Answers

-1	ب	-2	ب	-3	الف	-4	الف
-5	د	-6	ب	-7	الف	-8	الف

10. اسلامی جمہوریہ پاکستان کی خارجہ پالیسی
(Foreign Policy of Islamic Republic of Pakistan)

☐ ہر سوال کے چار متبادل جوابات دیے گئے ہیں۔ درست جواب پر نشان (✓) لگائیں۔

-1 پاکستان اور چین کی مشترکہ سرحد کی لمبائی:
(الف) تقریباً 400 کلومیٹر　　(ب) 500 کلومیٹر
(ج) 600 کلومیٹر　　(د) 700 کلومیٹر

-2 جنوری 2004ء میں سارک کانفرنس پاکستان کے جس شہر میں ہوئی:
(الف) لاہور　　(ب) اسلام آباد
(ج) کراچی　　(د) پشاور

-3 اقتصادی تعاون کی تنظیم کی بنیاد رکھنے کا سن:
(الف) 1970ء　　(ب) 1975ء
(ج) 1980ء　　(د) 1985ء

-4 پاکستان اور افغانستان کی مشترکہ سرحد کی لمبائی:

(ا) 2252 کلومیٹر (ب) 2282 کلومیٹر

(ج) 2350 کلومیٹر (د) 2452 کلومیٹر

-5 1966ء میں جس سعودی فرماں روا نے پاکستان کا دورہ کیا:

(ا) شاہ عبدالعزیز (ب) شاہ عبداللہ

(ج) شاہ سعود (د) شاہ فیصل

-6 پاکستان نے ایٹمی دھماکے جس سن میں کیے:

(ا) 1997ء (ب) 1998ء

(ج) 1999ء (د) 2000ء

-7 ورلڈ ٹریڈ سنٹر کا واقعہ جس ملک میں پیش آیا:

(ا) برطانیہ (ب) فرانس

(ج) امریکہ (د) جنوبی کوریا

-8 کامرہ کمپلیکس کی تعمیر میں پاکستان کو جس ملک نے مدد دی:

(ا) ایران (ب) سعودی عرب

(ج) افغانستان (د) چین

-9 بھارت اور پاکستان کے درمیان سندھ طاس معاہدہ ہونے کا سن:

(ا) 1960ء (ب) 1962ء

(ج) 1964ء (د) 1966ء

-10 پاکستان کو آزادی کے بعد سب سے پہلے جس ملک نے تسلیم کیا:

(ا) کویت (ب) ایران

(ج) انڈونیشیا (د) سعودی عرب

-11 پاکستان اور بھارت کے ناخوشگوار تعلقات کی سب سے بڑی وجہ:

(ا) غربت (ب) اسلحہ کی دوڑ

(ج) مسئلہ کشمیر (د) نہری پانی

جوابات
Answers

-1	ج	-2	ب	-3	د	-4	الف
-5	د	-6	ب	-7	ج	-8	د
-9	الف	-10	ب	-11	ج		

☆☆☆☆☆☆☆☆

اسلامیات

کثیر الانتخابی سوالات (MCQs)

☆ مندرجہ ذیل میں سے درست جواب پر نشان لگائیں:

1- قرآن مجید کتنے عرصے میں نازل ہوتا رہا؟

(a) 24 سال 6 ماہ 17 دن　　(b) 21 سال 7 ماہ 13 دن

(c) 19 سال 9 ماہ 19 دن　　(d) 22 سال 5 ماہ 14 دن

2- حدیث کے مطابق قرآن کا ایک لفظ پڑھنے والے کو کتنی نیکیوں کا ثواب ملتا ہے؟

(a) 20　　(b) 2

(c) 10　　(d) 1

3- 15 اگست 1947ء کو ریڈیو پاکستان نے صبح کی ٹرانسمیشن کا آغاز کس قرآنی سورۃ سے کیا؟

(a) سورۃ آل عمران　　(b) سورۃ الکوثر

(c) سورۃ نوح　　(d) سورۃ اللہب

4- قرآن مجید میں کی سورتیں کتنی ہیں؟

(a) 87　　(b) 90

(c) 81　　(d) 70

5- قرآن مجید میں کل کتنے پارے ہیں؟

(a) 40　　(b) 35　　(c) 30　　(d) 25

6- قرآن مجید کی کل کتنی سورتیں ہیں؟

(a) 117　　(b) 114　　(c) 113　　(d) 112

7- قرآن مجید میں کل کتنی آیات ہیں؟

(a) 5555　　(b) 4444　　(c) 7777　　(d) 6666

8- قرآن مجید کی سب سے لمبی سورۃ کونسی ہے؟

(a) سورۃ البقرہ　　(b) سورۃ البروج

(c) سورۃ آل عمران　　(d) سورۃ النساء

9- قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورۃ کونسی ہے؟

(a) سورۃ الفلق　　(b) سورۃ الکوثر

(c) سورۃ الناس　　(d) سورۃ اخلاص

10- قرآن مجید اللہ کے حکم سے کس فرشتے نے نازل کیا تھا؟

(a) حضرت اسرافیل　　(b) حضرت جبرائیل

(c) حضرت عزرائیلؑ
(d) حضرت میکائیلؑ

11- حضورﷺ کی ولادت کس سن میں ہوئی؟
(a) 570ء
(b) 569ء
(c) 571ء
(d) 580ء

12- حضورﷺ کا نام محمدﷺ کس نے رکھا؟
(a) والد
(b) والدہ
(c) چچا
(d) دادا

13- حضرت حلیمہؓ کون تھیں؟
(a) حضورﷺ کی والدہ
(b) حضورﷺ کی چچی
(c) حضورﷺ کی رضاعی والدہ
(d) حضورﷺ کی پھوپھی

14- حضورﷺ نے کس عمر میں نبوت کا اعلان کیا؟
(a) 35 سال
(b) 30 سال
(c) 40 سال
(d) 45 سال

15- حضورﷺ کی اپنی والدہ ماجدہ کے انتقال کے وقت کیا عمر تھی؟
(a) 7 سال
(b) 5 سال
(c) 6 سال
(d) 11 سال

16- حضرت خدیجہؓ سے شادی کے وقت حضورﷺ کی عمر کیا تھی؟
(a) 26 سال
(b) 25 سال
(c) 30 سال
(d) 24 سال

17- حضورﷺ کا کس سن میں وصال ہوا؟
(a) 632ء
(b) 633ء
(c) 634ء
(d) 636ء

18- وصال کے وقت حضورﷺ کی عمر کیا تھی؟
(a) 64 سال
(b) 63 سال
(c) 65 سال
(d) 61 سال

19- حضورﷺ نے مکہ میں کتنا عرصہ گزارا؟
(a) 50 سال
(b) 53 سال
(b) 48 سال
(d) 55 سال

20- حضورﷺ نے مدینہ منورہ میں کتنا عرصہ گزارا؟
(a) 10 سال
(b) 11 سال
(c) 15 سال
(d) 9 سال

21- حضورﷺ پر پہلی وحی کہاں نازل ہوئی؟
(a) گھر میں
(b) خانہ کعبہ میں
(c) غار حرا میں
(d) مدینہ میں

-22 کلمہ میں کل کتنے نقطے ہیں؟

(a) 6
(b) 8
(c) 7
(d) ایک بھی نہیں

-23 کلمہ میں کل کتنے حروف ہیں؟

(a) 40
(b) 48
(c) 53
(d) 91

-24 ظہر سے کیا مراد ہے؟

(a) دن ڈھلنے کا وقت
(b) دوپہر کا وقت
(c) سورج غروب ہونے کا وقت
(d) رات کا وقت

-25 ارکان اسلام میں سب سے اہم رکن کون سا ہے؟

(a) زکوٰۃ
(b) حج
(c) نماز
(d) روزہ

-26 اسلام کا تیسرا اہم رکن کون سا ہے؟

(a) روزہ
(b) زکوٰۃ
(c) نماز
(d) حج

-27 نمازیں پانچ ہیں ان میں کل کتنی رکعتیں فرض ہیں؟

(a) 21 رکعت
(b) 24 رکعت
(c) 17 رکعت
(d) 13 رکعت

-28 اسلام کا چوتھا اہم ترین رکن کون سا ہے؟

(a) نماز
(b) زکوٰۃ
(c) حج
(d) روزہ

-29 نماز کے بعد سب سے افضل رکن کون سا ہے؟

(a) روزہ
(b) حج
(c) زکوٰۃ
(d) کلمہ طیبہ

-30 اسلام کا کون سا رکن غریبوں پر فرض نہیں؟

(a) نماز
(b) روزہ
(c) حج
(d) زکوٰۃ

-31 اسلام کے کس رکن کو آنکھوں کی ٹھنڈک کہا جاتا ہے؟

(a) حج
(b) روزہ
(c) زکوٰۃ
(d) نماز

-32 تیسرے کلمہ کا نام بتائیں۔

(a) کلمہ شہادت — (b) کلمہ طیبہ
(c) کلمہ توحید — (d) کلمہ تمجید

33- اسلام کا پانچواں اہم رکن کون سا ہے؟
(a) زکوٰۃ — (b) حج
(c) روزہ — (d) نماز

34- حضور ﷺ کل کتنے غزوات میں شریک ہوئے؟
(a) 20 — (b) 28
(c) 13 — (d) 21

35- حضور ﷺ نے کتنے سرایہ روانہ کیے؟
(a) 56 — (b) 58
(c) 54 — (d) 60

36- غزوہ بدر میں کتنے مسلمان شہید ہوئے؟
(a) 14 — (b) 16
(c) 13 — (d) 11

37- قرآن مجید کی کس سورۃ میں اللہ تعالیٰ نے بدر کے میدان میں مدد دینے کا ذکر کیا ہے؟
(a) سورۃ البقرہ — (b) سورۃ آل عمران
(c) سورۃ یٰسین — (d) سورۃ الفتح

38- غزوہ احد میں کتنے مسلمان شہید ہوئے؟
(a) 70 — (b) 65
(c) 63 — (d) 80

39- غزوہ خندق میں خندق کھودنے کا مشورہ کس صحابیؓ نے دیا؟
(a) حضرت عمرؓ — (b) حضرت علیؓ
(c) حضرت سلمان فارسیؓ — (d) حضرت زبیرؓ

40- قرآن مجید کی کس سورۃ میں غزوہ خندق کا ذکر آیا ہے؟
(a) سورۃ جن — (b) سورۃ عنکبوت — (c) سورۃ البقرہ — (d) سورۃ احزاب

41- مسلمانوں کی کتنی تعداد نے حضور ﷺ کی نگرانی میں خندق کھودی؟
(a) ایک ہزار — (b) تین ہزار — (c) چار ہزار — (d) ڈھائی ہزار

42- غزوہ خندق میں قریش کے لشکر کی تعداد کیا تھی؟
(a) 10 ہزار — (b) 15 ہزار — (c) 9 ہزار — (d) 11 ہزار

43- غزوہ بدر میں کل کتنے کفار ہلاک ہوئے؟
(a) 75 — (b) 70 — (c) 45 — (d) 65

44- غزوہ بدر میں شہید ہونے والے مسلمانوں کی تعداد کیا تھی؟

15(a) 13(b) 14(c) 16(d)

45- غزوہ بدر کب ہوا؟

(a) 4ھ (b) 3ھ (c) 7ھ (d) 2ھ

46- غزوہ بدر میں کفار کے لشکر کی افرادی قوت کیا تھی؟

(a) 1,500 (b) 1,500 (c) 4,300 (d) 1,000

47- غزوہ احد کب ہوا؟

(a) 4ھ (b) 5ھ (c) 3ھ (d) 7ھ

48- غزوہ احد میں مسلمان لشکر کی تعداد کیا تھی؟

(a) 700 (b) 850 (c) 600 (d) 790

49- غزوہ احد میں کفار کے لشکر کی افرادی قوت بتائیں۔

(a) 3,500 (b) 3,000 (c) 3,200 (d) 2,800

50- صلح حدیبیہ کی شرائط مسلمانوں کی طرف سے کس نے تحریر کی تھیں؟

(a) حضرت علیؓ (b) حضرت عمرؓ

(c) حضرت عثمانؓ (d) حضرت ابوبکرؓ

جوابات

c	(5)	a	(4)	a	(3)	c	(2)	d	(1)
b	(10)	b	(9)	a	(8)	d	(7)	b	(6)
c	(15)	c	(14)	c	(13)	d	(12)	c	(11)
a	(20)	b	(19)	b	(18)	b	(17)	b	(16)
c	(25)	a	(24)	b	(23)	d	(22)	c	(21)
d	(30)	c	(29)	b	(28)	c	(27)	a	(26)
c	(35)	b	(34)	b	(33)	d	(32)	d	(31)
d	(40)	c	(39)	a	(38)	b	(37)	a	(36)
d	(45)	c	(44)	b	(43)	a	(42)	b	(41)
a	(50)	b	(49)	a	(48)	c	(47)	d	(46)

☆☆☆☆☆

متفرق معلومات

1- ترتیب نزول کے اعتبار سے سورۃ فاتحہ کا کون سا نمبر ہے؟

A چھٹا B ساتواں

C پانچواں D آٹھواں

2- "ام الکتاب" کون سی سورۃ کہلاتی ہے؟

A سورۃ فاتحہ B سورۃ الفلق

C سورۃ الناس D سورۃ الکوثر

3- قرآن مجید میں سب سے زیادہ لفظ کون سا استعمال ہوا ہے؟

A ب B ر

C م D الف

4- قرآن مجید میں سب سے کم کون سا لفظ استعمال ہوا ہے؟

A ظ B م

C ر D ج

5- ہجرت مدینہ کے وقت حضور ﷺ کس سورۃ کی تلاوت فرما رہے تھے؟

A سورۃ البقرہ B سورۃ یٰسین

C سورۃ یوسف D سورۃ آل عمران

6- قرآن مجید میں کتنے رکوع ہیں؟

A 670 B 550

C 900 D 558

7- قرآن مجید میں کتنی سورتیں 3 آیات پر مشتمل ہیں؟

A 4 B 5

C 3 D 6

8- روم کی فتح کی بشارت حضور ﷺ کو کس قرآنی سورۃ میں دی گئی تھی؟

A سورۃ نصر B سورۃ الناس

C سورۃ اخلاص D سورۃ روم

9- صلح حدیبیہ کے موقع پر کون سی سورۃ نازل ہوئی؟

A سورۃ صف B سورۃ دخان

C سورۃ فتح D سورۃ النساء

10- لفظ "احمد" قرآن مجید میں کس سورۃ میں آیا ہے؟

A سورۃ صف B سورۃ ق

C سورۃ ص D سورۃ علق

11- ترتیب نزول کے لحاظ سے قرآن مجید کی پہلی سورۃ کون سی ہے؟

A سورۃ قلم B سورۃ یٰسین

C سورۃ علق D سورۃ نور

12- پہلی وحی کے موقع پر کس سورۃ کی آیات کا نزول ہوا؟

A 5 آیات سورۃ علق B 7 آیات سورۃ فتح

C 6 آیات سورۃ قلم D 9 آیات سورۃ بقرہ

13- کس شخصیت کے حکم پر قرآن مجید میں سہولت کے لئے اعراب لگائے گئے؟

A خالد بن عبدالملک B حجاج بن یوسف

C امیر معاویہؓ D حضرت ابوبکر صدیقؓ

14- اُمّ المومنین حضرت عائشہؓ کی برأت میں قرآن مجید کی کون سی سورۃ نازل ہوئی؟

A سورۃ نور B سورۃ نجم

C سورۃ عنکبوت D سورۃ محمد

15- قرآن حکیم کی آخری وحی لکھنے کی سعادت کس صحابیؓ کو حاصل ہوئی؟

A ابی بن کعب B عثمان غنیؓ

C ابولبابہؓ D امیر حمزہؓ

16- کس سورۃ کی تلاوت کا ثواب دس قرآن مجید پڑھنے کے برابر ملتا ہے؟

A سورۃ توبہ B سورۃ الکوثر

C سورۃ فاتحہ D سورۃ یٰسین

17- قرآن مجید کی موجودہ ترتیب کے لحاظ سے پہلی سورۃ سورۃ فاتحہ ہے۔ آخری سورۃ کا نام بتائیں۔

A سورۃ الفلق B سورۃ الناس

C سورۃ نجم D سورۃ محمد

18- قرآن مجید میں خیرات کی تاکید کتنی بار کی گئی ہے؟

A 200 بار B 150 بار

C 180 بار D 75 بار

19- قرآن مجید میں کل کتنے سجدے آئے ہیں؟

A 15 B 18

C 11 D 14

20- قرآن مجید کی پہلی خاتون حافظہ کون تھیں؟

A اُمّ ورقہؓ بن نوفل B حضرت عائشہؓ

C حضرت حفصہؓ بنت عمرؓ D حضرت اُمّ سلیمہؓ

21- حضرت آدمؑ کی عمر کتنی تھی؟

A آٹھ سو سال B ایک ہزار سال

C 5 سو سال D $1\frac{1}{2}$ ہزار سال

22- حضرت آدمؑ اور حضرت حوا کی زمین پر پہلی ملاقات کہاں ہوئی؟

A کوہِ آدم لنکا B فلسطین

C دمشق D میدان عرفات

23- طوفان نوحؑ کی مدت کتنی تھی؟

A 7 ماہ
B $6\frac{1}{2}$ ماہ
C 6 ماہ آٹھ دن
D 11 ماہ

24- سب سے زیادہ نبی کس قوم پر مبعوث ہوئے؟

A بنی اسرائیل
B نصاریٰ
C اصحاب مدائن

25- قرآن مجید کے مطابق طوفان نوحؑ کے وقت حضرت نوحؑ کی عمر کیا تھی؟

A 1,400 سال
B 1,300 سال
C 950 سال
D 780 سال

26- حضرت یعقوبؑ کا انتقال کہاں ہوا؟

A فلسطین
B عرب
C شام
D مصر

27- حضرت یعقوبؑ کی کتنی اولادیں ہوئیں؟

A 16
B 15
C 13
D 12

28- ''روح اللہ'' کس پیغمبر کا لقب ہے؟

A حضرت موسیٰؑ
B حضرت یونسؑ
C حضرت عیسیٰؑ
D حضرت داؤدؑ

29- ید بیضا اور عصا کس پیغمبر کے معجزے ہیں؟

A حضرت یعقوبؑ
B حضرت داؤدؑ
C حضرت موسیٰؑ
D حضرت عیسیٰؑ

30- حضرت عیسیٰؑ کو کس عمر میں صلیب پر چڑھایا گیا؟

A 35 سال
B 33 سال
C 32 سال
D 30 سال

31- حضور ﷺ حضرت حلیمہ کے ہاں کتنا عرصہ رہے؟

A 5 سال
B 4 سال
C 3 سال
D 9 سال

32- حضرت زبیر بن عبدالمطلب آپ ﷺ کی کفالت کس عمر تک کرتے رہے؟

A 15 سال
B 22 سال
C 20 سال
D 16 سال

33- غار حرا مکہ سے کتنے میل کی مسافت پر ہے؟

A 5 میل
B 4 میل

C. 11 میل　　D. 3 میل

34- طائف مکہ سے کتنے میل دور ہے؟

A. 45 میل　　B. 40 میل

C. 50 میل　　D. 35 میل

35- نماز کب فرض ہوئی؟

A. 10 نبوی　　B. 12 نبوی

C. 9 نبوی　　D. 6 نبوی

36- طائف میں حضور ﷺ کا قیام کتنے دن رہا؟

A. 15 دن　　B. 10 دن

C. 13 دن　　D. 9 دن

37- قرآن مجید کا اکثر حصہ دن کے کون سے وقت نازل ہوا؟

A. صبح کے وقت　　B. رات کے وقت

C. دوپہر کے وقت　　D. شام کے وقت

38- ابتداء میں 50 نمازوں کی فرضیت کی گئی۔ آنحضور ﷺ کن کے کہنے پر بار بار اللہ تعالیٰ کے پاس جا کر اس میں تخفیف کراتے رہے، یہاں تک کہ 5 نمازیں رہ گئیں؟

A. حضرت عیسیٰؑ　　B. حضرت ابراہیمؑ

C. حضرت موسیٰؑ　　D. حضرت ہارونؑ

39- حضور ﷺ کو (نعوذ باللہ) زندہ یا مردہ لانے پر قریش نے کیا انعام رکھا تھا؟

A. 90 گھوڑے　　B. 100 اونٹ

C. 1,500 اشرفیاں　　D. 75 تلواریں

40- حضور ﷺ کے دور میں مسجد نبوی ﷺ کی تعمیر کتنے عرصہ میں مکمل ہوئی؟

A. 7 ماہ　　B. 8 سال

C. 11 ماہ　　D. $1\frac{1}{2}$ سال

41- کس سن میں مسلمانوں کے لئے تبدیلی قبلہ کا حکم آیا؟

A. 2ھ　　B. 4ھ

C. 6ھ　　D. 7ھ

42- میثاق مدینہ میں کل کتنی دفعات تھیں؟

A. 35　　B. 40

C. 53　　D. 49

43- میثاق مدینہ کب ہوا؟

A. 2ھ　　B. 1ھ

C. 4ھ　　D. 3ھ

44- "شق الصدر" کے واقعہ کے وقت آنحضور ﷺ کی عمر کیا تھی؟

A. 6 سال　B. 14 سال
C. 12 سال　D. 4 سال

45- شب معراج پر پہلے آسمان پر حضور ﷺ کی ملاقات کس نبی سے ہوئی؟
A. حضرت سلیمانؑ　B. حضرت آدمؑ
C. حضرت یحییٰؑ　D. حضرت عیسیٰؑ

46- قرآن مجید میں کتنے غزوات کا ذکر ہوا ہے؟
A. 16　B. 13
C. 12　D. 10

47- غزوۂ خندق میں خندق کھودنے کا مشورہ کس نے دیا تھا؟
A. حضرت سلمان فارسیؓ　B. حضرت جبلؓ
C. حضرت ابوبکرؓ　D. حضرت عثمانؓ

48- اسلام کے پہلے شہید مرد کا نام کیا ہے؟
A. حضرت معاذؓ　B. حضرت زیدؓ
C. حضرت سہیلؓ　D. حضرت حارثؓ

49- حضرت خدیجہؓ کے بعد اسلام قبول کرنے والی دوسری خاتون کا نام کیا ہے؟
A. حضرت عائشہؓ　B. حضرت اسماءؓ
C. حضرت اُمِ ابی ہریرہؓ　D. حضرت اُمِ الفضلؓ

50- حضور ﷺ کی کتنی پھوپھیوں نے اسلام قبول کیا؟
A. 6　B. 4
C. 3　D. 2

51- حضرت عبدالرحمٰنؓ بن عوف کس کے مشورے سے مسلمان ہوئے؟
A. حضرت عمرؓ　B. حضرت ابوبکرؓ
C. حضرت عثمانؓ　D. حضرت علیؓ

52- ہجرت مدینہ کے وقت حضور ﷺ نے کس کو اپنے بستر پر سلا دیا تھا؟
A. حضرت علیؓ　B. حضرت حمزہؓ
C. حضرت عثمانؓ　D. حضرت عباسؓ

53- ہجرت مدینہ کے وقت حضرت علیؓ کی عمر کیا تھی؟
A. 33 سال　B. 23 سال
C. 40 سال　D. 21 سال

54- کس سن میں حضرت علیؓ نے مدینہ کی بجائے کوفہ کو دارالحکومت بنایا؟
A. 36ھ　B. 40ھ
C. 32ھ　D. 43ھ

55- "عام الحزن" کا واقعہ کس سن ہجری میں پیش آیا؟
A. 15　B. 16
C. 17　D. 21

56- "حرب الفجار" کے وقت حضور ﷺ کی عمر کیا تھی؟

A 30 سال　B 20 سال
C 25 سال　D 21 سال

57- آنحضور ﷺ کی سب سے زیادہ اولاد کس زوجہ کے بطن سے ہوئی تھی؟

A حضرت عائشہؓ　B حضرت خدیجہؓ
C حضرت زینبؓ　D حضرت جویریہؓ

58- حضور ﷺ کی کس زوجہ کا تعلق یہودی قبیلہ سے تھا؟

A حضرت رقیہؓ　B حضرت ریحانہؓ
C حضرت ماریہؓ　D حضرت میمونہؓ

59- حضور ﷺ کے کس صاحبزادے کے انتقال کے وقت سورج گرہن ہو گیا تھا؟

A حضرت قاسمؓ　B حضرت طاہرؓ
C حضرت ابراہیمؓ

60- آنحضور ﷺ کے کون سے صاحبزادے آپ کی سب سے چھوٹی اور آخری اولاد تھے؟

A حضرت طاہرؓ　B حضرت قاسمؓ
C حضرت ابراہیمؓ

61- حضور ﷺ کے پاس کتنی ڈھالیں تھیں؟

A 2　B 4
C 3　D 6

62- حضور ﷺ کے ذاتی گھوڑے کتنے تھے؟

A 13　B 11
C 7　D 9

63- حضور ﷺ نے کس رنگ کا لباس پہننے سے منع فرمایا ہے؟

A سبز　B سیاہ
C سرخ　D سفید

64- حضور ﷺ کے کون سے چچا ان سے صرف دو سال بڑے تھے؟

A حضرت ابو طالب　B حضرت زبیر بن عبدالمطلب
C حضرت حمزہؓ　D حضرت عباسؓ

65- حضور ﷺ کا پسندیدہ رنگ کون سا تھا؟

A سبز　B سرخ
C سفید　D نیلا

66- سانحہ کربلا کس سن کو پیش آیا؟

A 680ء　B 681ء
C 670ء　D 675ء

67- قافلہ کربلا کے سب سے کم عمر شہید کون تھے؟

A حضرت علی اصغرؓ　B امام زین العابدینؒ

C حضرت عبداللہؓ D حضرت زبیرؓ

68- حضور ﷺ کے سب سے چھوٹے داماد کون تھے؟

A حضرت ابوالعاصؓ B حضرت عثمانؓ

C حضرت علیؓ

69- حضرت فاطمہؓ کے کون سے صاحبزادے بچپن میں فوت ہو گئے تھے؟

A حضرت حسنؓ B حضرت محسنؓ

C حضرت حسینؓ

70- حضور ﷺ کی کون سی پھوپھی حضرت عثمان غنیؓ کی والدہ تھیں؟

A حضرت صفیہؓ B حضرت عاتکہؓ

C حضرت اُم حکیمؓ D حضرت اروٰیؓ

71- لفظ زم زم کس زبان کا لفظ ہے؟

A عربی B عبرانی

C فارسی D مصری

72- کس سن میں زم زم کا کنواں اُبلنے سے سیلاب کی صورت پیدا ہو گئی تھی؟

A 909ء B 910ء

C 911ء D 913ء

73- زم زم کا کنواں کتنے فٹ گہرا ہے؟

A 180 فٹ B 200 فٹ

C 140 فٹ D 190 فٹ

74- احد کا پہاڑ مدینہ سے کتنے فاصلے پر ہے؟

A 3 میل B 6 میل

C 4 میل D 11 میل

75- کس شہر کے لئے قرآن مجید میں ''اُم القریٰ'' کا لفظ استعمال ہوا ہے؟

A مدینہ B طائف

C مکہ D بحرین

76- حضرت آدم کو سجدہ نہ کرنے کا ابلیس کا قصہ کتنی مرتبہ قرآن مجید میں آیا ہے؟

A 9 مرتبہ B 11 مرتبہ

C 13 مرتبہ D 6 مرتبہ

77- اسلامی سال کا پہلا مہینہ کون سا ہے؟

A رمضان B محرم

C شعبان D ذی الحج

78- صلح حدیبیہ کے موقع پر کون سی زوجہ حضور ﷺ کے ساتھ تھیں؟

A حضرت عائشہؓ B حضرت ماریہؓ

C حضرت جویریہؓ D حضرت اُم سلمہؓ

79- آنحضور ﷺ نے اپنی مشہور اونٹنی کس سے خریدی تھی؟

A حضرت عثمانؓ B حضرت ابوبکرؓ
C حضرت سلمان فارسیؓ D حضرت علیؓ

80- قرآن مجید میں مچھلی کے گوشت کا ذکر کس سورۃ میں آیا ہے؟
A سورۃ الفلق B سورۃ الکوثر
C سورۃ بقرہ D سورۃ الفاطر

81- صحابہ میں سب سے پہلے حافظ قرآن کون تھے؟
A حضرت علیؓ B حضرت عثمانؓ
C حضرت عمرؓ D حضرت عبداللہؓ

82- حضرت ابراہیم بن ادھم کا مزار کس ملک میں ہے؟
A ایران B ترکی
C شام D عراق

83- مسجد راس الحسین کہاں واقع ہے؟
A انقرہ B قاہرہ
C استنبول D جکارتہ

84- امام طب کس مسلم سائنس دان کو کہا جاتا ہے؟
A ابن الہیثم B ابن باجہ
C رازی D ابن بیطار

85- غزوۂ خندق میں کس خاتون کی بہادری سے متاثر ہوکر حضورﷺ نے ان کا حصہ مردوں کے برابر لگا دیا؟
A حضرت عائشہؓ B حضرت صفیہؓ
C حضرت ام سلمہؓ D حضرت جویریہؓ

86- حضرت زیدؓ بن ثابت نے حضورﷺ کی ہدایت پر کون سی زبان سیکھی؟
A مصری B فارسی
C ہندی D عبرانی

87- اللہ تعالیٰ نے کس شہر کے لوگوں کو ہدایت کے لئے حضرت یونسؑ کو مبعوث کیا تھا؟
A بابل B قاہرہ
C نینوا D بغداد

88- آنحضورﷺ نے زندگی میں چار عمرے کئے، کون سے مہینے میں؟
A ذیقعد B ذی الحج
C شوال D رمضان

89- غزوہ خیبر کے موقع پر تیار کیا گیا پرچم کن ام المومنین کی چادر سے بنایا گیا تھا؟
A حضرت زینبؓ B حضرت سودہؓ
C حضرت عائشہؓ D حضرت جویریہؓ

90- امیر خسرو نے کتنے بادشاہوں کا زمانہ دیکھا ہے؟
A 8 B 9
C 7 D 12

91- قرآن مجید کا رسم الخط کس کا بتایا ہوا ہے؟
A حضرت میکائیلؑ B حضرت جبرائیلؑ

-104 قسطنطنیہ کو سب سے پہلے کس مسلمان بادشاہ نے فتح کیا؟
A سلطان سلیمان اعظم B سلطان فاتح
C سلطان عبدالمجید ثانی D سلطان سلیم

-105 پہلے عباسی خلیفہ کا نام بتائیں جس نے مصر فتح کیا۔
A ہارون الرشید B مامون الرشید
C مہتدی باللہ D واثق باللہ

-106 بنو عباس نے کل کتنی مدت حکومت کی؟
A 550 سال B 524 سال
C 570 سال D 598 سال

-107 اس اموی خلیفہ کا نام بتائیں جس نے بھیک مانگنا قانوناً جرم قرار دیا۔
A ولید بن عبدالملک B عبدالملک بن مروان
C سلیمان بن عبدالملک D ہشام بن عبدالملک

-108 بنو امیہ نے کل کتنی مدت حکومت کی؟
A 100 سال B 90 سال
C 80 سال D 125 سال

-109 کس بادشاہ نے پہلی اسلامی ٹیکسال بنائی یعنی اسلامی سکہ جاری کیا؟
A ولید بن عبدالملک B عبدالملک بن مروان
C مروان بن محمد D امیر معاویہؓ

-110 عربی کو سرکاری زبان کا درجہ کس بادشاہ نے دیا؟
A ہارون الرشید B مامون الرشید
C مروان بن محمد D عبدالملک بن مروان

-111 مشہور تعلیمی ادارے "فرنگی محل" کی عمارت کس شہر میں ہے؟
A دہلی B لاہور
C لکھنؤ D آگرہ

-112 ابن جوزی کی تصانیف کی تعداد کیا ہے؟
A 250 B 260
C 270 D 280

-113 حضرت عثمانؓ نے شہادت کے وقت کل کتنی جائیداد چھوڑی؟
A 37لاکھ درہم کی B 35لاکھ درہم کی
C 40لاکھ درہم کی D 42لاکھ درہم کی

-114 حضرت عثمانؓ نے شہادت کے وقت کتنا نقد سرمایہ چھوڑا؟
A $1\frac{1}{2}$ لاکھ دینار B 2لاکھ دینار
C 50ہزار دینار D 75ہزار دینار

-115 مشہور صوفی بزرگ حضرت ابراہیم بن ادھمؒ کس سلطنت کے بادشاہ تھے؟
A فارس B ترکی
C شام D بلخ

-116 بغداد کتنے سال تک بنو عباس کا دارالحکومت رہا؟

A 513 سال — B 509 سال

C 515 سال — D 525 سال

-117 بغداد میں کتنے عباسی خلفاء کا انتقال ہوا؟

A 11 — B 12

C 17 — D ایک بھی نہیں

-118 کس عباسی خلیفہ کو گدھے کی سواری کا بے حد شوق تھا؟

A خلیفہ مامون الرشید — B خلیفہ ہارون الرشید

C خلیفہ ہادی — D ابوجعفر المنصور

-119 بنو عباس کا سرکاری لباس کس رنگ کا تھا؟

A سبز — B سفید

C سیاہ — D سرخ

-120 ابن بیطار نے کتنی جڑی بوٹیوں پر کام کر کے ان کے خواص یکجا کیے؟

A 1,500 — B 1,300

C 1,200 — D 1,400

-121 مسلمانوں کی سب سے قدیم یونیورسٹی کون سی اور کہاں ہے؟

A مدینہ یونیورسٹی (سعودی عرب) — B دمشق یونیورسٹی (شام)

C جامعہ قرطبہ (اسپین) — D جامعہ الازہر (مصر)

-122 اسلامی تاریخ میں سرکاری مکاتیب اور دستاویزوں پر مہر کے استعمال کی ابتداء کب ہوئی؟

A یکم شوال 8ھ — B یکم محرم 7ھ

C یکم محرم 9ھ — D 10 ذی الحج 11ھ

-123 سب سے پہلے کن پیغمبر نے انگور کی کاشت کی؟

A حضرت لوطؑ — B حضرت نوحؑ

C حضرت ادریسؑ — D حضرت آدمؑ

-124 اللہ نے زمین اور آسمان کتنے دنوں میں بنائے؟

A 8 دن — B 7 دن

C 6 دن — D 11 دن

-125 حضورﷺ کی ان زوجہ کا نام بتائیں جن کی عمر نکاح کے وقت آپؐ کی عمر کے برابر تھی۔

A حضرت ماریہؓ — B حضرت سودہؓ

C حضرت زینبؓ بنت خزیمہ — D حضرت صفیہؓ

-126 حضورﷺ کی پہلی اولاد کا اسم گرامی بتائیں۔

A حضرت رقیہؓ — B حضرت قاسمؓ

C حضرت طاہرؓ — D حضرت ابراہیمؓ

-127 سب سے پہلے اسلام میں تعمیر ہونے والی مسجد کا نام بتائیں۔

A مسجد قبا — B مسجد نبویﷺ

C مسجد جمعہ — D مسجد قبلتین

[redacted]

A	-4	D	-3	A	-2	C	-1
D	-8	C	-7	D	-6	B	-5
A	-12	C	-11	A	-10	C	-9
D	-16	A	-15	A	-14	B	-13
C	-20	D	-19	B	-18	B	-17
A	-24	C	-23	D	-22	B	-21
C	-28	D	-27	D	-26	C	-25
C	-32	B	-31	B	-30	C	-29
B	-36	A	-35	B	-34	D	-33
A	-40	B	-39	C	-38	B	-37
D	-44	B	-43	C	-42	A	-41
D	-48	A	-47	C	-46	B	-45
A	-52	B	-51	B	-50	D	-49
B	-56	A	-55	C	-54	B	-53
C	-60	C	-59	B	-58	B	-57
C	-64	C	-63	C	-62	A	-61
C	-68	A	-67	B	-66	C	-65
A	-72	D	-71	A	-70	B	-69
A	-76	C	-75	A	-74	C	-73
D	-80	B	-79	D	-78	B	-77
C	-84	B	-83	B	-82	B	-81
A	-88	C	-87	D	-86	B	-85
C	-92	B	-91	C	-90	C	-89
D	-96	B	-95	A	-94	C	-93
A	-100	C	-99	D	-98	B	-97
B	-104	B	-103	A	-102	A	-101
B	-108	A	-107	B	-106	B	-105
A	-112	C	-111	D	-110	B	-109
B	-116	D	-115	A	-114	B	-113
C	-120	C	-119	C	-118	D	-117
C	-124	B	-123	B	-122	D	-121
		A	-127	B	-126	B	-125

☆☆☆☆☆☆

کیا آپ جانتے ہیں؟

- قرآن پاک میں "شد" کا استعمال 1274 بار، "پیش" کا 8804 بار، "زبر" کا 53,223 بار اور "زیر" کا استعمال 39,582 بار ہوا ہے۔
- قرآن پاک میں تیس پارے اور 114 سورتیں ہیں۔
- مکی سورتوں کی تعداد 87 اور مدنی سورتوں کی تعداد 27 ہے۔
- قرآن مجید کی کل آیات 6236 ہیں اور سجدۂ تلاوت 14 ہیں۔ (بعض کتب میں آیات کی تعداد 6666 دی گئی ہے)۔
- قرآن کل 22 سال 5 ماہ اور 4 دن کے عرصہ میں نازل ہوا۔
- نزول قرآن کا مکی دور 12 سال 8 ماہ 5 دن ہے۔
- نزول قرآن کا مدنی دور 9 سال 9 ماہ اور 9 دن ہے۔
- سورۃ البقرہ قرآن کی سب سے بڑی اور سورۃ الکوثر سب سے چھوٹی سورت ہے۔
- قرآن میں کل رکوع 558 اور کل منزلیں سات ہیں۔
- حضورﷺ کے قول، فعل اور تقریر کو حدیث کہتے ہیں۔
- صحیح بخاری، صحیح مسلم، جامع ترمذی، سنن ابی داؤد، سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ صحاح ستہ ہیں۔
- فقہ اسلامی میں قرآن کے بعد حدیث کا مقام ہے۔
- تدوین حدیث کے سلسلہ میں عمر رحمتہ اللہ علیہ بن عبدالعزیز کا نام سرفہرست ہے۔
- جزیرۃ العرب کو تہامہ، نجد، حضر موت، عروض اور حجاز میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔
- دور جاہلیت کی مشہور لڑائیاں بوس، داحس، غبرا اور فجار ہیں۔
- بعثت نبویﷺ کے وقت مکہ و مدینہ میں پانچ مذاہب یہود، عیسائی، صابی، مشرکین اور حنفاء کے لوگ تھے۔
- عربوں کی دو اقسام عرب بائدہ اور عرب باقیہ ہیں۔
- عرب باقیہ کی دو اقسام عرب عاربہ اور عرب مستعربہ ہیں۔
- عہد جاہلیت کے مشہور شاعر زہیر اور عنترہ ہیں۔
- خانہ کعبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے بنایا۔
- خانہ کعبہ کو ہر سال یکم شعبان کو عرق گلاب اور آب زم زم سے غسل دیا جاتا ہے۔
- حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زبان عبرانی تھی۔
- حج مسلمانوں پر 9ھ میں فرض ہوا، 9 ذی الحجہ تاریخ مقرر ہوئی اور حضرت ابوبکرؓ امیر حج بنائے گئے۔
- حج صاحب استطاعت مسلمانوں پر زندگی میں ایک بار فرض ہے۔
- صفا اور مروہ کے درمیان سات مرتبہ دوڑنا "سعی کرنا" کہلاتا ہے۔
- عمرہ 9 ذی الحجہ سے 11 ذی الحجہ کے دنوں کے علاوہ خانہ کعبہ کی زیارت ہے۔
- روزہ 2 نبوی کو شب معراج میں مسلمانوں پر فرض ہوا۔
- جان بوجھ کر یا بلاوجہ روزہ توڑنے کی سزا مسلسل 60 روزے رکھنا یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے۔
- حضرت ابوبکر صدیقؓ 573ء میں پیدا ہوئے، اصل نام عبداللہ بن عثمان اور لقب صدیق تھا۔
- حضرت ابوبکر صدیقؓ کے پاس قبول اسلام کے وقت 40 ہزار اشرفیاں تھیں۔
- آزاد مردوں میں حضرت ابوبکر صدیقؓ سب سے پہلے اسلام لائے۔

- حضرت ابوبکر صدیقؓ ہجرت مدینہ کے دوران تین دن حضور ﷺ کے ساتھ غار ثور میں رہے۔
- مسجد نبوی ﷺ کی جگہ کی قیمت حضرت ابوبکر صدیقؓ نے ادا کی۔
- واقعہ معراج کی تصدیق پر حضرت ابوبکرؓ کو صدیق کا لقب ملا۔
- غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت ابوبکرؓ نے گھر کا سارا سامان حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر کیا۔
- 10ھ میں حضرت ابوبکرؓ امیر حج بنائے گئے۔
- حضرت ابوبکر صدیقؓ 11ھ سے 13ھ تک خلیفہ رہے۔
- حضرت ابوبکر صدیقؓ نے نبوت کے جھوٹے دعوے داروں کا خاتمہ کیا۔
- حضرت ابوبکر صدیقؓ نے منکرین زکوٰۃ کے خلاف جہاد کیا۔
- جنگ یمامہ میں حفاظ کرام کی ایک بڑی تعداد شہید ہوگئی تو حضرت ابوبکرؓ نے قرآن جمع کروایا۔
- تدوین قرآن میں حضرت زید بن ثابت نے زیادہ کام کیا۔
- ہجرت مدینہ میں حضور ﷺ اور حضرت ابوبکرؓ کا پیچھا سراقہ بن جعشم نے کیا۔
- حضرت ابوبکر صدیقؓ کا دور خلافت 2 سال 3 ماہ اور 11 دن ہے۔
- حضرت ابوبکر صدیقؓ نے 22 جمادی الثانی 13ھ کو 63 برس کی عمر میں وفات پائی۔
- حضرت عمرؓ 583 میں مکہ میں پیدا ہوئے' کنیت ابوحفص تھی' لقب فاروق تھا۔
- حضور ﷺ نے حضرت عمرؓ اور ابوجہل میں سے ایک کے مسلمان ہونے کی دعا مانگی تھی۔
- 2ھ میں جنگ بدر مسلمانوں اور کافروں کے درمیان ہوئی۔
- جنگ بدر کے دن کو "یوم الفرقان" کہا گیا کیونکہ اس روز حق اور باطل میں فرق واضح ہوگیا تھا۔
- 3ھ میں غزوہ احد ہوا جس میں ابوسفیان کی بیوی ہندہ نے حضرت حمزہؓ کا کلیجہ چبایا۔
- 5ھ میں غزوہ خندق ہوا۔
- 6ھ میں صلح نامہ حدیبیہ تحریر ہوا۔
- 8ھ کو حضور ﷺ کے ہاتھوں مکہ فتح ہوا۔
- 10ھ میں حضور ﷺ نے خانہ کعبہ میں مسلمانوں کو خطبہ الوداع دیا۔
- حضور ﷺ کا 12 ربیع الاول 11ھ کو وصال ہوا' عمر مبارک 63 سال تھی۔
- مکی زندگی میں حضور ﷺ نے توحید' آخرت' سابقہ انبیاء پر ایمان اور اخلاق حسنہ کی تعلیم دی۔
- قرآن کی سورۃ توبہ سے پہلے بسم اللہ نہیں اور سورۃ النمل میں دو بار ہے۔
- فقہ اسلامی کے ماخذ قرآن' حدیث' اجماع اور قیاس ہیں۔
- نماز فجر میں دو فرض اور دو سنت ہیں' کل چار رکعتیں ہیں۔
- نماز ظہر کی کل بارہ رکعات' چار سنت' چار فرض' دو سنت اور دو نفل ہیں۔
- نماز عصر کی کل چار رکعات فرض ہیں۔ چار سنتیں غیر موکدہ ہوتی ہیں۔
- نماز مغرب کی سات رکعات تین فرض' دو سنت اور دو نفل ہیں۔
- نماز عشاء کی کل سترہ رکعات' چار سنت' چار فرض' دو سنت' دو نفل' تین وتر اور دو نفل ہیں۔
- نماز جمعہ کی کل چودہ رکعات ہیں۔ چار سنتیں' دو فرض' چار سنتیں' دو سنت' دو نوافل ہیں۔
- عیدالفطر اور عیدالاضحیٰ واجب ہیں' ان کی دو دو رکعات ہیں۔
- نماز جنازہ کی چار تکبیریں چار رکعات کی قائم مقام ہیں۔
- زکوٰۃ مسلمانوں پر 3ھ میں فرض ہوئی۔

- نصاب زکوۃ 7 1/2 تولے سونے یا 52 1/2 تولے چاندی یا اس کی قیمت کے برابر مال ہو تو مالک پر 2 1/2 فیصد زکوۃ واجب ہے۔
- زکوۃ کے آٹھ مصارف فقراء، مساکین، عاملین، مولفۃ القلوب، قرض دار، غلاموں کی آزادی، مسافر اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہیں، سورہ توبہ آیت نمبر 60۔
- غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت عمرؓ نے اپنی آدھی جائیداد حاضر کر دی۔
- حضرت عمرؓ نے حضرت ابوبکر صدیقؓ کو قرآن جمع کرنے کا مشورہ دیا۔
- 22 جمادی الثانی 13ھ کو حضرت عمرؓ نے خلافت سنبھالی۔
- حضرت عمرؓ نے 15ھ میں بیت المال کی بنیاد رکھی۔
- حضرت عمرؓ نے 21ھ میں سن ہجری کی بنیاد رکھی، حضرت عمرؓ نے پولیس، فوج اور جیل خانہ جات کے مستقل محکمے قائم کیے۔
- اسلامی سن کا آغاز حضرت علیؓ کے مشورہ سے ہجرت مدینہ کے واقعہ سے کیا گیا۔
- اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام حضرت عثمانؓ کی تجویز پر رکھا گیا۔
- 18ھ میں قحط کے موقع پر حضرت عمرؓ نے غلہ منگوا کر تقسیم کیا۔
- حضرت عمرؓ کا فتح کردہ علاقہ 22 لاکھ 51 ہزار مربع میل تھا۔
- حضرت عمرؓ کو غلام ابولولو فیروز نے 27 ذی الحجہ 23ھ کو شہید کیا۔
- حضرت عمرؓ کا دور خلافت ساڑھے دس سال ہے۔
- حضرت عثمانؓ 573ء میں مکہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کا لقب غنی تھا۔
- حضرت عثمانؓ کے نکاح میں حضورﷺ کی دو صاحبزادیاں آئیں اور ذوالنورین کہلائے۔
- حضرت عثمانؓ نے غزوہ بدر کے علاوہ تمام غزوات میں شرکت کی۔
- حضرت عثمانؓ نے مدینہ میں "بئر رومہ" کنواں 24 ہزار درہم میں خرید کر مسلمانوں کو دیا۔
- روزانہ 200 ٹن آب زم زم مکہ مکرمہ سے 20 ٹینکروں کے ذریعے مسجد نبویﷺ پہنچایا جاتا ہے۔
- مسجد نبوی کی توسیع کے لئے جگہ حضرت عثمانؓ نے خریدی۔
- حضرت عثمانؓ نے حضرت ابوبکر صدیقؓ کی تبلیغ پر اسلام قبول کیا۔
- حضرت عثمانؓ نے مسلمانوں کو ایک قرأت پر جمع کیا۔
- حضرت عثمانؓ کے دور خلافت میں امیر معاویہؓ نے بحری بیڑہ بنوایا۔
- حضرت عثمانؓ 18 ذی الحجہ 35ھ کو شہید ہوئے۔
- حضرت عثمانؓ کا دور خلافت 11 سال 11 ماہ اور 18 دن تھا۔
- حضرت علیؓ 610ء میں مکہ میں پیدا ہوئے، ان کی کنیت ابوالحسن اور ابوتراب تھی اور القاب حیدر اور مرتضیٰ تھے۔
- حضرت علیؓ حضورﷺ کے چچازاد بھائی تھے۔
- حضرت علیؓ کی شادی حضورﷺ کی بیٹی حضرت فاطمہؓ سے ہوئی۔
- بچوں میں سب سے پہلے حضرت علیؓ حضورﷺ پر ایمان لائے۔
- حضرت علیؓ اور حضرت عائشہؓ کے درمیان جنگ جمل ہوئی۔
- حضرت علیؓ کے ہاتھوں قلعہ خیبر فتح ہوا۔
- حضرت علیؓ 35ھ سے لے کر 40ھ تک خلیفہ رہے، عرصہ 4 سال 9 ماہ تھا۔
- جنگ صفین میں حضرت علیؓ کے ثالث ابوموسیٰ اشعری تھے۔
- حضرت علیؓ کو عبدالرحمن ابن ملجم خارجی نے 19 رمضان 40ھ کو زخمی کیا۔ 21 رمضان کو وفات پائی۔
- حضرت علیؓ نے جنگ خندق میں پہلوان عمرو بن عبدود کو قتل کیا۔

- حضرت ابو بکرؓ پہلے اسلامی خلیفہ تھے۔
- حضرت عمرؓ دوسرے اسلامی خلیفہ تھے۔
- حضرت عثمانؓ تیسرے اسلامی خلیفہ تھے۔
- حضرت علیؓ چوتھے اسلامی خلیفہ تھے۔
- حضرت خدیجہؓ کے والد کا نام خویلد اور والدہ کا نام فاطمہ تھا۔
- حضرت خدیجہؓ کا پہلا نکاح ابو ہالہ اور دوسرا عتیق سے ہوا۔
- حضرت خدیجہؓ کے غلام میسرہ نے آپؐ کے سامنے حضور ﷺ کی ایمانداری بیان کی۔
- حضرت خدیجہؓ 10 نبوی میں فوت ہوئیں، عورتوں میں پہلی مسلمان تھیں۔
- حضرت عائشہؓ سے حضور ﷺ کا نکاح 10 نبوی میں ہوا۔
- حضرت سودہؓ 22ھ میں فوت ہوئیں۔
- حضرت عائشہؓ 615ء میں پیدا ہوئیں اور 51ھ میں انتقال ہوا۔
- حضرت حفصہؓ 606ء میں پیدا ہوئیں اور 45ھ میں انتقال فرمایا۔
- حضرت زینبؓ 3ھ میں حضور ﷺ کے نکاح میں آئیں اور اسی سال انتقال ہوا۔
- حضرت ام سلمہؓ کا انتقال 61ھ میں ہوا۔
- حضور ﷺ کی پھوپھی زاد حضرت زینبؓ کا انتقال 20ھ میں ہوا۔
- حضرت جویریہؓ سے نکاح پر حضور ﷺ نے ان کے خاندان کے 700 غلام آزاد کیے۔
- ام حبیبہؓ ابو سفیان کی بیٹی اور حضور ﷺ کی زوجہ محترمہ تھیں۔
- ام حبیبہؓ کا انتقال 44ھ میں ہوا۔
- حضرت میمونہؓ کا وصال 51ھ میں ہوا۔
- حضرت صفیہؓ کا وصال 50ھ میں ہوا۔
- حضرت امام حسنؓ 3ھ میں پیدا ہوئے۔
- حضور ﷺ کے انتقال کے وقت حضرت حسنؓ کی عمر 8 سال تھی۔
- حضرت حسنؓ 51ھ میں شہید ہوئے۔
- امام حسینؓ 6 شعبان 4ھ کو پیدا ہوئے۔
- حضور ﷺ کے انتقال کے وقت امام حسینؓ کی عمر 7 سال تھی۔
- امام حسینؓ 10 محرم الحرام 61ھ کو یزید کی فوج کے ہاتھوں شہید ہوئے۔

☆☆☆☆☆

(C) lenient (D) blast

15. **Crestfallen :**
(A) humiliated (B) hard
(C) elite (D) frustrated

16. **Deluge :**
(A) flood (B) object
(C) annihilate (D) restore

17. **Dereliction :**
(A) attention (B) neglect
(C) divorce (D) restore

18. **Derogate :**
(A) exaggerate (B) calm
(C) deflenerate (D) ordain

19. **Dormant :**
(A) active (B) vigilant
(C) warbling (D) inert

20. **Don :**
(A) doff (B) assume
(C) pine (D) blithe

21. **Exemplify :**
(A) reprehensible (B) illustrate
(C) empty (D) finish

22. **Entramel :**

(A) hamper (B) extricate
(C) apathy (D) amuse

23. **Emendation :**
(A) irritant (B) stoicism
(C) barren (D) rectification

24. **Elude :**
(A) evade (B) rule
(C) sway (D) fascinate

25. **Exudation :**
(A) aridity (B) ecstasy
(C) percolation (D) horrid

26. **Frivolous :**
(A) serious (B) trivial
(C) peculiar (D) candid

27. **Furtive :**
(A) public (B) open
(C) secretive (D) combine

28. **Fugitive :**
(A) escaping (B) enduring
(C) vain (D) weak

29. **Fulminate :**
(A) clamour (B) misfire
(C) barren (D) prodigal

30. ***Frugal :***

(A) prolific (B) efficacious
(C) clamour (D) thrifty

31. ***Guile :***

(A) candour (B) wander
(C) deceit (D) sense

32. ***Grotesque :***

(A) ordinary (B) archaic
(C) usual (D) crawl

33. ***Gluttony :***

(A) frugality (B) torment
(C) voracity (D) thwart

34. ***Grardiloquence :***

(A) simplicity (B) wanton
(C) shear (D) verbosity

35. ***Grief :***

(A) delight (B) sorrow
(C) redundancy (D) beauty

Directions. In the following questions, each word is followed by four responses *a, b, c* and *d.* You should choose the correct antonym of the given word out of the four choices.

36. ***Abbreviate :***

(A) abridge (B) expand
(C) achieve (D) accept

37. ***Abjure :***

(A) acknowledge (B) disown
(C) deny (D) hate

38. ***Absurd :***

(A) scarcity (B) adorn
(C) rational (D) flourish

39. ***Abundant :***

(A) ample (B) enough
(C) great (D) scant

40. ***Acerbity :***

(A) Sweat (B) gentleness
(C) tasty (D) account

41. ***Blooming :***

(A) Fading (B) flowering
(C) quiet (D) mild

42. ***Bliss :***

(A) merge (B) disseminate
(C) dull (D) suffering

43. ***Bewitch :***

(A) disenchant (B) rapture
(C) profit (D) avail

44. ***Bauble :***

(A) plaything (B) valuable
(C) modest (D) besiege

45. ***Busy :***
(A) bully (B) curb
(C) indolence (D) occupied

46. ***Celebrity :***
(A) celebration (B) solemnity
(C) obscurity (D) hazy

47. ***Cataclysm :***
(A) peace (B) deluge
(C) quibble (D) conjecture

48. ***Concord :***
(A) consolidate (B) bestow
(C) outline (D) discord

49. ***Compliance :***
(A) condone (B) clamour
(C) resistance (D) condense

50. ***Circumlocution :***
(A) amass (B) ambiguity
(C) effusion (D) simplicity

51. ***Despicable :***
(A) worthy (B) contemptible
(C) earn (D) purity

52. ***Ductile :***
(A) indistinct (B) vague
(C) inelastic (D) quiescent

53. ***Dormant :***
(A) Inert (B) doff
(C) indulgence (D) active

54. ***Dissipate :***
(A) accumulate (B) distil
(C) percolate (D) emanate

55. ***Disdain :***
(A) haughtiness (B) erroneous
(C) respect (D) contempt

56. ***Ephemeral :***
(A) transient (B) perpetual
(C) disencumber (D) demote

57. ***Erudition :***
(A) ignorance (B) evict
(C) scholarship (D) dubious

58. ***Exultation :***
(A) ecstasy (B) frugality
(C) mourning (D) severe

59. ***Expunge :***
(A) erase (B) dilate
(C) entity (D) imprint

60. ***Extenuate :***
(A) palliate (B) quality
(C) enhance (D) offhand

61. ***Flux :***
   (A) stillness   (B) motion
   (C) swerve   (D) wince

62. ***Fatigue :***
   (A) vitality   (B) weariness
   (C) solemn   (D) enchant

63. ***Fume :***
   (A) frown   (B) chafe
   (C) comply   (D) dupe

64. ***Fugitive :***
   (A) evanescent   (B) captive
   (C) unkempt   (D) smart

65. ***Fulminate :***
   (A) murmur   (B) clamour
   (C) efficacious   (D) vain

66. ***Gallant :***
   (A) bold   (B) fine
   (C) frolic   (D) coward

67. ***Garrulity :***
   (A) reticence   (B) gaudy
   (C) superb   (D) abettor

68. ***Generous :***
   (A) magnanimous   (B) visual
   (C) vivid   (D) stingy

69. ***Genuine :***
   (A) real   (B) voracious
   (C) spurious   (D) insincere

70. ***Germinate :***
   (A) shoot   (B) sprout
   (C) alien   (D) decay

ANSWERS

1	(A)	2	(A)	3	(C)	4	(B)	5	(D)
6	(C)	7	(A)	8	(B)	9	(C)	10	(D)
11	(B)	12	(D)	13	(A)	14	(B)	15	(D)
16	(A)	17	(B)	18	(C)	19	(D)	20	(B)
21	(B)	22	(A)	23	(D)	24	(A)	25	(C)
26	(B)	27	(C)	28	(A)	29	(A)	30	(D)
31	(C)	32	(B)	33	(C)	34	(D)	35	(B)
36	(B)	37	(A)	38	(C)	39	(D)	40	(B)
41	(A)	42	(D)	43	(A)	44	(B)	45	(C)
46	(C)	47	(A)	48	(D)	49	(C)	50	(D)
51	(A)	52	(C)	53	(D)	54	(A)	55	(C)
56	(B)	57	(A)	58	(C)	59	(D)	60	(C)
61	(A)	62	(A)	63	(C)	63	(B)	65	(A)
66	(D)	67	(A)	68	(D)	69	(C)	70	(D)

SYNONYM/ANTONYM TESTS

Directions. In the following questions, each word is followed by four responses *a, b, c* and *d*. You should choose the correct synonym of the given word out of the four choices.

1. ***Abandon :***
(A) vacate *(B)* foil
(C) lose *(D)* gain

2. ***Abdicate :***
(A) give up *(B)* imperious
(C) rude *(D)* dissent

3. ***Abhor :***
(A) crave *(B)* reconcile
(C) detest *(D)* rude

4. ***Abnegation :***
(A) indulgence *(B)* rejection
(C) complete *(D)* final

5. ***Axiom :***
(A) absurdity *(B)* shirk
(C) elude *(D)* maxim

6. ***Bloated :***
(A) privileged *(B)* emaciated
(C) swollen *(D)* rapture

7. ***Blemish :***
(A) disgrace *(B)* eccentric
(C) young *(D)* fair

8. ***Bizzare :***
(A) normal *(B)* strange
(C) logical *(D)* tense

9. ***Bawl :***
(A) mulberry *(B)* mutter
(C) vociferate *(D)* daub

10. ***Bequeath :***
(A) alienate *(B)* stab
(C) obstruct *(D)* dispose of

11. ***Cataclysm :***
(A) reverse *(B)* upheavel
(C) pungent *(D)* trash

12. ***Cupidity :***
(A) extravagance *(B)* shrewd
(C) complaisant *(D)* avarice

13. ***Cumbersome :***
(A) awkward *(B)* analyse
(C) decay *(D)* grow

14. ***Culmination :***
(A) nadir *(B)* apex

PEDAGOGY - OBJECTIVE (MCQs)

TEACHING METHOD TEST – 1

1. The meaning of teaching method is:
- (a) Style of teaching
- (b) Way of teaching
- (c) Art of teaching
- (d) Substitution of the knowledge from outer world into child's intellect

2. A teaching method completes with the help of:
- (a) Various techniques
- (b) Many tactics
- (c) Many postures
- (d) Many approaches

3. What a teaching method is?
- (a) An art
- (b) A science
- (c) Both art and science
- (d) Can't say

4. It is possible to teach without a teaching method but it is harmful because one cannot:
- (a) Attain the objective
- (b) Develop perfection in learning situation
- (c) Deliver organised teaching
- (d) All of the above

5. What term has been used when the external knowledge of the environment is fused with a child's brain?
- (a) Teaching method
- (b) Teaching tactics
- (c) Teaching skill
- (d) Teaching process

6. Which of the following method is termed as an essential evil?
- (a) Lecture method
- (b) Lecture-cum-demonstration method
- (c) Assignment method
- (d) Discussion method

7. The end product of teacher-centred method is:
- (a) To memorize the facts
- (b) To express belief in traditional agencies
- (c) To depend on teacher's authority
- (d) All of the above

8. Which of the following is not included in process dimension of teacher-centred methods of teaching?
- (a) Reception
- (b) Authority
- (c) Memory
- (d) Discovery approach

9. Which one of the following characteristics is present in teacher-centred method?
- (a) Formality
- (b) Teacher's authority
- (c) Neglect of innovations
- (d) All of the above

10. The dimension of a teaching method is:
- (a) Factual
- (b) Process
- (c) Environmental
- (d) All of the above

11. The main objective of child-centred teaching method is:
- (a) To develop the learning abilities in children in free way
- (b) To develop the skills in children
- (c) To develop independence in students
- (d) All of the above

12. Generally in child-centred methods of teaching, the role of teacher is:
- (a) To formulate the problematic situations
- (b) To collect the possible material and resources for the children
- (c) To help the children in formulation of their hypotheses
- (d) All of the above

13. The end product of child-centred method is:
- (a) The development of high level inquiry methods in children
- (b) Imparting full freedom to the children
- (c) Enhancing the potentialities of the children
- (d) All of the above

14. In which of the following, the teacher is ready to follow the innovations?
- (a) Child-centered methods
- (b) Teacher-centered methods
- (c) Both of the above
- (d) None of the above

15. In which of the following, the teacher emphasizes on democratic values?
- (a) Child-centred methods
- (b) Student-centred methods
- (c) Both of the
- (d) None of the

above above

16. **The salient feature of lecture method is:**
(a) Economy (b) Teacher leisure
(c) Communication of factual information (d) None of the above

17. **Which one of the following is not the teaching principle?**
(a) Lecture method (b) Heuristic method
(c) Assignment method (d) Project method

18. **When a teacher is comparatively passive and the students are overtly active and sit as listeners only—this way of teaching method is called:**
(a) Lecture method (b) Assignment method
(c) Project method (d) None of the above

19. **The defect of lecture method is:**
(a) Lack in scientific attitude (b) Devoid of the principle of learning by doing
(c) A one-way teaching process (d) All of the above

20. **In which of the following methods, the teacher takes least interest towards the attention of the students in a classroom?**
(a) Project method (b) Assignment method
(c) Lecture method (d) Discussion method

21. **Which one of the following is required in lecture method?**
(a) Training (b) Exercise
(c) Maturity (d) Intellectual skills

22. **Generally, lecture method is assumed as the best method for:**
(a) High school students (b) Intermediate students
(c) Graduate students (d) All of the above

23. **The lecture should be:**
(a) Interesting (b) Well-organised and systematic
(c) Medium level with proper modulations (d) All of the above

24. **In modern classes, how extent the authoritative behaviour of a teacher is suitable?**
(a) To a great extent (b) Not at all
(c) Can't say (d) Depend on the teacher's personality

25. **Which one of the following is not a quality of a teacher?**
(a) Economy (b) Fast pace
(c) Time saving (d) Free thinking

26. **The defect in lecture method is:**
(a) Extra emphasis on memory (b) Lack of self-thinking
(c) Lack of scientific attitude (d) All of the above

27. **What is the importance of rehearsal before actual demonstration carried out in the class-room?**
(a) It creates self-confidence in a teacher (b) The teacher becomes familiar with the difficulties which may occur during experimentation in the classroom conditions
(c) The teacher performs the experiment's demonstration in a perfect fashion (d) All of the above

28. **The single most important point for demonstration of a lesson is:**
(a) Selection of content (b) Lesson pointers and selection of questions
(c) Collection of essential apparatuses (d) All of the above

29. **During demonstration, the topic should be presented in:**
(a) Problematic manner (b) Debatable manner
(c) Suspending manner (d) None of the above

30. **Which of the following perception should be taken by a teacher for presentation of content alongwith demonstration?**
(a) Use of examples (b) Presentation of right questions
(c) Vivid pronunciation and proper language fluency (d) All of the above

31. **The main characteristic of demonstration method is:**
(a) Economic (b) Activity-oriented
(c) Eliminating (d) All of the

lurking dangers as conducted by expert teachers | above

32. **The defect of lecture-cum-demonstration method is that:**
(a) It is not child-centred
(b) It creates obstacles in the development of scientific attitude
(c) It neglects direct experiences
(d) All of the above

33. **The pioneer of Heuristic method is:**
(a) Prof. H.E. Armstrong
(b) Prof. D.S. Kothari
(c) Prof. J.A. Stevenson
(d) Prof. Leopold Thorndike

34. **The original idea of Armstrong is that:**
(a) The realistic aim of science is discovery through pure researches
(b) The student's participation is compulsory in pure researches
(c) The pure researches should be conducted on the basis of traditional researches
(d) The future of a country is safe in its pure researches

35. **The word "Heuristic" is derived from:**
(a) Greek word *heurisco*
(b) Latin word heuriri
(c) English word *humorous*
(d) None of the above

36. **"In discovery methods of teaching, the students are generally forced to work as scientists." This statement is propounded by:**
(a) John Dewey
(b) John Little
(c) Armstrong
(d) Theodore Bit

37. **H.E. Armstrong was working as a professor of:**
(a) Chemistry
(b) Physics
(c) Education
(d) Philosophy

38. **The exact meaning of the term *Heurisco* is:**
(a) To find out
(b) To discover
(c) To derive conclusions
(d) None of the above

39. **The equivalent term of *Heuristic* is *Euriskein* which is meant:**
(a) To visualize science by doing
(b) To observe science
(c) To discover science
(d) None of the above

40. **A teacher-centred method is converted into child-centred method, if a teacher can do:**
(a) It partially in a deliberate manner
(b) It perfectly through insight
(c) It in a reversible fashion
(d) It in the presence of large audience of the students

41. **Westaway has presumed Heuristic method as:**
(a) Only a teaching method
(b) Only a training method
(c) Only a research method
(d) Only a method mend for acquiring knowledge

42. **Which of the following psychological principles have been followed by Heuristic method?**
(a) Principle of freedom
(b) Principle of experience
(c) Principle of activity
(d) All of the above

43. **The central principle of Heuristic method is:**
(a) Learning by doing
(b) Learning through personal working
(c) Learning through labour
(d) Learning through experiences

44. **What is the role of a teacher is Heuristic method?**
(a) Teacher as a friend
(b) Teacher as a stage-setter
(c) Teacher as creator of inductive method of teaching
(d) All of the above

45. **The main characteristics of Heuristic method is:**
(a) Learning by doing
(b) Training in scientific method
(c) Independence
(d) All of the above

46. **Which one of the following is appeared to be a defect of Heuristic method?**
(a) It assumes child as a little scientist
(b) It treated child as a father of man
(c) It teaches child through playway
(d) None of the above

47. **The application of Heuristic method in our classrooms is:**

(a) Highly practical (b) Impractical
(c) Practical (d) Cannot say

48. The best use of Heuristic method takes place in:
(a) Science club (b) Classroom teaching
(c) Educational excursions (d) None of the above

49. Heuristic method is not suitable in the condition of:
(a) Traditional curriculum (b) Traditional classroom
(c) Traditional system of instruction (d) All of the above

50. The learning of abilities in a free manner gives birth to:
(a) Self-development (b) Spontaneity
(c) Self-expression (d) All of the above

51. The relationship between teacher and student in Heuristic method of teaching can be compared as of:
(a) Guide and follower (b) Friends in a cooperative venture
(c) Participants on a mutual venture (d) All of the above

52. The 'Problem' is defined as:
(a) An unanswered question (b) A mental burden
(c) A continuous tension (d) All the above

53. The fundamental basis of problem-solving resembles with:
(a) Scientific method (b) Heuristic method
(c) Project method (d) None of the above

54. Generally, problem solving behaviour originates in the situation of:
(a) Unexpected difficulties (b) Normal classroom
(c) Classroom teaching (d) Routine life

55. Problem-solving is defined as:
(a) A psychological concept (b) A method of teaching
(c) A reflective thinking (d) All of the above

56. The important step of problem-solving method is:
(a) Defining of a problem (b) Collection of adequate data
(c) Observation of the events (d) All of the above

57. The main characteristic of problem-solving method is:
(a) Learning by doing (b) Development of scientific attitude
(c) Independence (d) All pf the above

58. Which one of the following is the demerit of problem-solving method?
(a) Retarded speed (b) Emphasis on experimental work
(c) Non-availability of textbooks (d) All of the above

59. Assignment method is a mixed version of:
(a) Lecture-cum-demonstration method and individual laboratory work (b) Project method and lecture method
(c) Heuristic method and problem-solving method (d) None of the above

60. The types of assignment are of:
(a) 2 (b) 3
(c) 4 (d) 6

61. The meaning of home assignment is:
(a) To complete the teachers' work at home by the students (b) To complete the work at home with the help of tutor
(c) To prepare the detailed account of class work at home by the students (d) None of the above

62. School assignment is associated with:
(a) The assignment given to students in their classes (b) The experiments performed by the students in their school-lab
(c) Both the above (d) None of the above

63. The aim of the assignment is:
(a) The development of scientific attitude (b) The training in scientific method
(c) The discovery of scientific facts and (d) All of the above

deviation of its principles

64. The central quality of assignment method is:
- (a) Students learning by doing taken place
- (b) The students develop the habit of hardwork
- (c) The method is economic
- (d) It saves teachers from exclusive evaluation

65. The important defect of assignment method is:
- (a) Non-availability of the textbooks
- (b) Need of adequate library
- (c) Need of well-equipped laboratory
- (d) All of the above

66. Assignment method is suitable for:
- (a) High school and intermediate students
- (b) Higher education students
- (c) University students
- (d) All of the above levels of students

67. The pioneer of project method is:
- (a) John Dewey
- (b) W.A. Kilpatrick
- (c) Both of the above
- (d) None of the above

68. The basic philosophy of project method is:
- (a) Progressivism
- (b) Idealism
- (c) Pragmatism
- (d) Individualism

69. In project method emphasis is laid down on:
- (a) Learning by doing
- (b) Learning by living
- (c) Learning by cooperation and competition
- (d) All of the above

70. The role of a teacher in project method is:
- (a) Like a friend
- (b) Like a guide
- (c) Like a co-worker
- (d) All of the above

71. The most important characteristic of project method is:
- (a) Child-centredness
- (b) Training in scientific method
- (c) Learning of science through playing
- (d) Emphasis on democratic principle

72. The characteristic of an excellent project is:
- (a) Purposiveness
- (b) Favourable activities for focusing children's attention
- (c) Freedom to work to children
- (d) All of the above

73. Project should be selected by:
- (a) The teachers only
- (b) The students only
- (c) Both of the above
- (d) None of the above

74. The nature of the project should be:
- (a) Most difficult
- (b) Most early
- (c) Average level
- (d) Can't say

75. Which one of the following law of learning is fulfilled through project method?
- (a) Law of readiness
- (b) Law of exercise
- (c) Law of effect
- (d) All of the above

ANSWERS

1.	D	2.	A	3.	C	4.	D	5.	A
6.	A	7.	D	8.	D	9.	D	10.	D
11.	D	12.	D	13.	D	14.	A	15.	A
16.	A	17.	A	18.	A	19.	D	20.	C
21.	B	22.	C	23.	D	24.	A	25.	D
26.	D	27.	D	28.	D	29.	A	30.	D
31.	D	32.	D	33.	A	34.	A	35.	A
36.	C	37.	A	38.	A	39.	C	40.	A
41.	B	42.	D	43.	A	44.	D	45.	D
46.	A	47.	C	48.	A	49.	D	50.	D
51.	D	52.	D	53.	A	54.	A	55.	D
56.	D	57.	D	58.	D	59.	A	60.	A
61.	A	62.	B	63.	D	64.	A	65.	D
66.	A	67.	C	68.	C	69.	D	70.	D
71.	B	72.	D	73.	C	74.	C	75.	D

****

TEACHING METHOD TEST - 2

1. ***SOLO stands for:***
   - (A) System of the observed learning outcome
   - (B) Structure of the observed learning output
   - (C) Structure of the observed learning outcome
   - (D) System of the observed learning output
2. ***SOLO taxonomy consists of levels:***
   - (A) 2
   - (B) 3
   - (C) 4
   - (D) 5
3. ***With reference to SOLO taxonomy one aspect of a task is understood in:***
   - (A) Unistructural level
   - (B) Multistructural level
   - (C) Relation level
   - (D) Extended abstract level
4. ***Two or more aspects are understood in:***
   - (A) Unistructural level
   - (B) Multistructural level
   - (C) Relational level
   - (D) Extended abstract level
5. ***Integration is developed between two or more aspects in:***
   - (A) Unistructural level
   - (B) Multistructural level
   - (C) Relational level
   - (D) Extended abstract level
6. ***SOLO taxonomy was presented by:***
   - (A) Bloom
   - (B) Krathwhol
   - (C) Simpson
   - (D) Biggs & Collis
7. ***Students are passive in:***
   - (A) Project method
   - (B) Discovery method
   - (C) Lecture method
   - (D) Inquiry method
8. ***Symposium is a type of:***
   - (A) Discovery method
   - (B) Discussion method
   - (C) Lecture method
   - (D) Demonstration method
9. ***In teaching, experienced members guide the immature one's for:***
   - (A) Spending time
   - (B) Qualification
   - (C) Quality of life
   - (D) Adjustment of life
10. ***Which is not the focal point of triangular process of teaching?***
    - (A) Teaching method
    - (B) Teacher
    - (C) Pupil
    - (D) Contents
11. ***The goal of teaching is:***
    - (A) To give information
    - (B) To involve pupils in activities
    - (C) To impart knowledge
    - (D) Desirable change in behaviour
12. ***The rules of presenting the contents to make them easy are called:***
    - (A) Methods of teaching
    - (B) Maxims of teaching
    - (C) Techniques of teaching
    - (D) Teaching strategies
13. ***Heuristic means:***
    - (A) To investigate
    - (B) To show
    - (C) To do
    - (D) To act
14. ***According to Kilpatrick, the types of projects are:***
    - (A) 2
    - (B) 3
    - (C) 4
    - (D) 5
15. ***Activity involves:***

(A) Physical action (B) Mental action
(C) Mere action (D) Physical and mental action

16. ***We move from specific to general in:***
(A) Inductive method (B) Deductive method
(C) Drill method (D) Discussion method

17. ***Practice is made in:***
(A) Inductive method (B) Deductive method
(C) Drill method (D) Discussion method

18. ***The Socratic method is known as:***
(A) Lecture demonstration method (B) Discussion method
(C) Inquiry method (D) Question-Answer method

19. ***Duration of lessons in macro-lesson plans is:***
(A) 5-10 min, (B) 10-20 min,
(C) 20-30 min, (D) 35-45 min,

20. ***In British approach of lesson planning, more emphasis is on:***
(A) Activity (B) Teacher
(C) Content presentation (D) Teacher and content presentation

21. ***American approach emphasizes:***
(A) Teacher (B) Content presentation
(C) Learning objectives (D) Methods

22. ***Which one is not he type of lesson plans on the basis of objectives?***
(A) Micro lesson plan (B) Cognitive lesson plan
(C) Affective lesson plan (D) Psychomotor lesson plan

23. ***A good drama does not include:***
(A) Interesting story (B) Alive dialogues
(C) Very long play (D) Subject full of feeling

24. ***Which is not the objective of drama / role play?***
(A) Recreation and enjoyment (B) Development of social skills
(C) Development of skills of conversation (D) Do make rehearsals

25. ***Drama or role platy is useful for teaching:***
(A) History (B) Science
(C) Maths (D) Languag

26. ***The main types of teleconferencing identified are:***
(A) 2 (B) 3
(C) 4 (D) 5

27. ***Which is not the type of teleconferencing?***
(A) Audio teleconferencing (B) Video teleconferencing
(C) T.V teleconferencing (D) Computer teleconferencing

28. ***Which one is accountable in cooperative learning?***
(A) Individual (B) Group
(C) Both a & b (D) None of a & b

29. ***Cooperative learning is an alternative to:***
(A) Competitive models (B) Teaching models
(C) Lesson plans (D) Micro teachings

30. ***The number of students in cooperative learning groups is?***
(A) 3-4 (B) 5-6

(C) 8-10 (D) 10-15

31. The essential characteristic of cooperative learning is:

(A) Effective learning (B) Positive interedependence
(C) Cooperation (D) Division of labour

32. The students like to spend the most of the time with:

(A) Teachers (B) Parents
(C) Relatives (D) Peers

33. Peer culture constitutes:

(A) Socialization (B) Individualization
(C) Both a & b (D) None of a & b

34. Which is not the advantage of team, teaching?

(A) Better utilization of resources (B) Better planning
(C) Better use of teaching techniques (D) Better financial benefits of teachers

35. The hypothesis underlying team teaching is:

(A) Teachers fell bore while working alone (B) Teacher are not competent
(C) The best teachers in schools are shared by more students (D) The single teacher cannot control the class

36. CAI stands for:

(A) Computer analyzed instruction (B) Computer assisted instruction
(C) Computer assisted interview (D) Computer analyzed interview

37. Which is not the mode of CAI?

(A) Tutorial mode (B) Drill mode
(C) Simulation mode (D) Question mode

38. Ability to develop a life style based upon the preferred value system is:

(A) Responding (B) Valuing
(C) Organizing (D) Characterizing

39. Example of cognitive domain is:

(A) Describe a topic (B) Develop an X-ray film
(C) Type a letter (D) Take responsibility for tools

40. At the highest level of hierarchy is:

(A) Understanding (B) Application
(C) Evaluation (D) Analysis

41. The number of domains in taxonomies of educational objectives is:

(A) Two (B) Three
(C) Five (D) Six

42. The highest level of cognitive domain is:

(A) Synthesis (B) Analysis
(C) Comprehension (D) Evaluation

43. The process of determing the value or worth of anything is:

(A) Test (B) Measurement
(C) Assessment (D) Evaluation

44. Educational objectives have been divided into:

(A) Two domains (B) Three domains
(C) Four domains (D) Five domains

45. Taxonomy of educational objectives was presented in:

(A) 1946 (B) 1956

(C) 1966 (D) 1976

46. ***The classification of cognitive domain was presented by:***
(A) Benhjamin S. Bloom (B) Skinner
(C) Krathwhol (D) Simpson

47. ***Cognitive domain has:***
(A) Three subgroups (B) Four subgroups
(C) Five subgroups (D) Six subgroups

48. ***The lowest level of learning in cognitive domain is:***
(A) Comprehension (B) Application
(C) Knowledge (D) Synthesis

49. ***The highest level of learning in cognitive domain is:***
(A) Evaluation (B) Synthesis
(C) Analysis (D) Application

50. ***Knowing memorizing and recalling is concerned with:***
(A) Comprehension (B) Application
(C) Knowledge (D) Evaluation

51. ***To grasp the meaning of the material is:***
(A) Comprehension (B) Application
(C) Knowledge (D) Synthesis

52. ***To use previous learned material in new situation is:***
(A) Comprehension (B) Application
(C) Knowledge (D) Analysis

53. ***To break down material into component parts to know its organizational structure is:***
(A) Comprehension (B) Application
(C) Analysis (D) Synthesis

54. ***To put ideas together to form a new whole is:***
(A) Evaluation (B) Synthesis
(C) Analysis (D) Application

55. ***To know the worth or value of material is:***
(A) Analysis (B) Application
(C) Knowledge (D) Evaluation

56. ***The intellectual skills are reflected by:***
(A) Cognitive Domain (B) Affective Domain
(C) Psychomotor Domain (D) Physical Domain

57. ***Attitudes, values and interests are reflected by:***
(A) Cognitive Domain (B) Affective Domain
(C) Psychomotor Domain (D) Evaluative Domain

58. ***Which domain is concerned with physical and motor skills?***
(A) Cognitive Domain (B) Affective Domain
(C) Psychomotor Domain (D) Evaluative Domain

59. ***The focus of cognitive domain is:***
(A) Physical and Motor Skills (B) Intellectual Skills
(C) Attitudes and Interests (D) None of above

60. ***The affective domain was classified by:***
(A) Benjamin S. Bloom (B) Simpson
(C) Krathwhol (D) Burner

61. ***Affective domain is divided into:***
(A) four subgroups (B) Five subgroups

(C) Six subgroups (D) Seven subgroups

62. ***The lowest level of learning in affective domain is:***
(A) Responding (B) Valuing
(C) Attending (D) Organizing

63. ***Which is placed at the highest level of learning in affective domain?***
(A) Attending (B) Responding
(C) Organization (D) Characterization

64. ***Willingness to attend to particular phenomenon is:***
(A) Attending / Receiving (B) Responding
(C) Valuing (D) Organization

65. ***Brining together different values into a consistent value system is:***
(A) Attending / Receiving (B) Responding
(C) Valuing (D) Organization

66. ***Affective domain focuses on adoption of a value system as a part of life style in:***
(A) Responding (B) Valuing
(C) Organization (D) Characterization

67. ***Psychomotor domain was classified by Simpson in:***
(A) 1962 (B) 1972
(C) 1982 (D) 1992

68. ***Affective domain was divided into subgroups by Kruthwhol in:***
(A) 1954 (B) 1964
(C) 1974 (D) 1984

69. ***Psychomotor domain was divided by Simpson in:***
(A) Four subgroups (B) Five subgroups
(C) Six subgroups (D) Seven subgroups

70. ***The characteristic of behavioral objective is:***
(A) Observable and Immeasurable (B) Non-observable and measurable
(C) Observable and measurable (D) Non-observable and immeasurable

71. ***Objective related to affective domain is:***
(A) Student can pain a picture (B) Students can draw a graph
(C) Students values honesty (D) Students can write a letter

72. ***Bringing together scientific ideas to form a unique idea is:***
(A) Application (B) Analysis
(C) Synthesis (D) Evaluation

73. ***Which is vast in Scope?***
(A) Teaching Tactic (B) Teaching Technique
(C) Teaching Strategy (D) Teaching Method

74. ***Students find/explore the information themselves in:***
(A) Lecture method (B) Discovery method
(C) Both (D) None

75. ***Teacher performs practically and explains in:***
(A) Lecture method (B) Discovery method
(C) Demonstration method (D) Problem solving method

76. ***Role of student is active in:***
(A) Discovery method (B) Problem solving method
(C) Inquiry method (D) All of above

77. ***Micro teaching is a:***

(A) Teaching method (B) Teacher training technique
(C) Motivational technique (D) None of above

78. ***What is the time of presentation in microteaching?***
(A) 1-5 min. (B) 5-10 min
(C) 10-15 min (D) 15-20 min

79. ***What is the no. of students in microteaching?***
(A) 1-15 (B) 5-10
(C) 10-15 (D) 15-20

80. ***Microteaching started in:***
(A) 1950 (B) 1960
(C) 1970 (D) 1980

81. ***Microteaching focuses on the competency over:***
(A) Methods (B) Skills
(C) Contents (D) Observations

82. ***Which is more suitable in teaching of science?***
(A) Lecture method (B) Demonstration method
(C) Discussion method (D) Project method

83. ***Which one is exception?***
(A) Books (B) Magazines
(C) Diagrams (D) T.V

84. ***Which is not included in print media?***
(A) Books (B) Magazines
(C) Diagrams (D) T.V

85. ***How many senses a person uses while observing film?***
(A) 1 (B) 2
(C) 3 (D) 4

86. ***How much knowledge is gained through the sense of seeing?***
(A) 75% (B) 13%
(C) 6% (D) 3%

87. ***How much knowledge is gained through the sense of listening?***
(A) 75% (B) 13%
(C) 6% (D) 3%

88. ***How much knowledge is gained through the sense of touch?***
(A) 75% (B) 13%
(C) 6% (D) 3%

89. ***How much knowledge is gained through the sense of smell?***
(A) 75% (B) 13%
(C) 6% (D) 3%

90. ***How much knowledge is gained through the sense of taste?***
(A) 75% (B) 13%
(C) 6% (D) 3%

91. ***According to W. Therber, types of models are:***
(A) 2 (B) 3
(C) 4 (D) 5

92. ***Mock up models are those which explain?***
(A) Principles or working of machine (B) Internal structure
(C) External structure (D) Internal and external structure

93. A field trip is arranged for:
(A) Making an excursion
(B) See other people doing things
(C) Note the meaning of action
(D) All of the above

94. Interest can be created in students in specific topcis of study by the use of:
(A) Chalk board
(B) Fellalin
(C) Bulletin board
(D) All of the above

95. The most direct experience from the following is that of:
(A) Motion pictures
(B) Visual symbol
(C) Demonstration
(D) Field trip

96. Wragg has suggested how many number of students in a microteaching class?
(A) 35 to 40
(B) 25 to 30
(C) 15 to 20
(D) 5 to 10

97. Method based on the facts that students learn association, activity and cooperation is known as:
(A) Demonstration
(B) Project
(C) Problem-solving
(D) Discussion

98. Exhibition of science fairs promote students ability of:
(A) Knowledge and comprehension
(B) Comprehension and application
(C) Higher order skills
(D) Lower order skills

99. The ultimate focus of scientific method is on:
(A) Hypothesis formulation
(B) Observations
(C) Experimentation
(D) Formulation of a law/theory

100. What is the first step in the Project method of teaching?
(A) Determination of activities
(B) Determination of objectives
(C) Planning
(D) Distribution of work

101. Which one is not the Psychological principle of teaching?
(A) Proceed from concrete to abstract
(B) Proceed from complex to simple
(C) Proceed from known to unknown
(D) Proceed from simple to difficult

102. Which is the best method of teaching science at school level?
(A) Lecture
(B) Analytical
(C) Direct
(D) Demonstration

103. Which is not the step of scientific method?
(A) Observation
(B) Experiment
(C) Prediction
(D) Interview

104. The ultimate result of scientific method?
(A) Development of knowledge
(B) Development of senses
(C) Both a & b
(D) None of a & b

105. Aims are:
(A) National expectations
(B) Institution expectations
(C) Learning expectations
(D) None of the above

106. Goals are at:
(A) National level
(B) Subject level
(C) Classroom level
(D) All of the above

107. Objectives are at:
(A) National level
(B) Subject level
(C) Classroom level
(D) All of the above

108. Inquiry means:

(A) To investigate
(B) To learn
(C) To teach
(D) To find

109. Inquiry method includes:

(A) Observation
(B) Experiments
(C) Questioning answering
(D) Showing

110. Which one is the best for large group instruction?

(A) Lecture method
(B) Demonstration method
(C) Project method
(D) Inquiry method

111. Useful for higher classes is:

(A) Lecture method
(B) Demonstration method
(C) Project method
(D) Inquiry method

112. First component of lesson planning is:

(A) Objective
(B) Presentation
(C) Homework
(D) Summary

113. The teaching method recommended for elementary school science in Pakistan is:

(A) Lecture method
(B) Project method
(C) Activity method
(D) Laboratory method

114. Demonstration means:

(A) To perform
(B) To develop
(C) To show
(D) To observe

115. Herbert model for lesson planning has steps:

(A) Three
(B) Four
(C) Five
(D) Six

116. Discovery method is advanced method of:

(A) Heuristic method
(B) Inquiry method
(C) Both a & b
(D) None of a & b

117. The steps to be taken in problem solving method are:

(A) Two
(B) Three
(C) Four
(D) Five

118. Method based on Deway's philosophy is:

(A) Lecture method
(B) Demonstration method
(C) Inquiry method
(D) Project method

119. Who says that project is a purposeful activity?

(A) Deway
(B) Stevenson
(C) Ballard
(D) Kilpatrick

120. Which is not the step of project method?

(A) Planning
(B) Execution
(C) Analysis
(D) Evaluation

121. Programmed learning was presented by:

(A) J.S. Burner
(B) Benjamin Bloom
(C) John Dewey
(D) B.F. Skinner

122. Portfolio is the collection of:

(A) School record
(B) Teacher work
(C) Student work
(D) Office work

123. In programmed learning, learning takes place under:

(A) Natural conditions
(B) Artificial conditions
(C) Controlled conditions
(D) Planned conditions

124. Teaching method based upon the assumption of Herbert Spencer that the learner should be told as little as possible is:

(A) Heuristics Method (B) Demonstration Method
(C) Discussion Method (D) Lecture Method

125. An overall procedure which is adopted by a teacher to achieve certain goals is:

(A) Method (B) Technique
(C) Strategy (D) Tactic

126. Selection of different media for different students is done in:

(A) Role Playing (B) Individualized Instruction
(C) Programmed Instruction (D) Computer Assistant Instruction

127. A repeated performance of learning act until attainment of desired level of skill to do the act correctly is:

(A) Demonstration Method (B) Problem Solving Method
(C) Project Method (D) Drill Method

128. A process in which a small group assembles to communicate with each other, using speaking, listening and non-verbal processes in order to achieve instructional objectives is:

(A) Lecture Method (B) Discussion Method
(C) Question Answer Method (D) Demonstration Method

129. During discussion method, teacher passes/announces a:

(A) Exercise (B) Activity
(C) Topic (D) Question

130. The surface category in SOLO Taxonomy consists of:

(A) Five Stages (B) Four Stages
(C) Three Stages (D) Two Stages

131. The 'surface' category in SOLO Taxonomy consists of:

(A) Prestructural and Unistructural (B) Unistructural and Multistructural
(C) Multistructural and Relational (D) Relational and extended Abstract

132. The 'deep' category in SOLO Taxonomy consists of:

(A) Prestructural and Unistructural (B) Unistracutural and Multistructural
(C) Multistructural and Relational (D) Relational and Extended Abstract

133. Synthesis requires:

(A) Formulation of new structural material (B) Understanding the structure of the material
(C) Judge the value of material (D) Use the material in new situation

134. Microteaching is a technique of teaching:

(A) In classroom (B) Subject in detail
(C) By more than one teacher (D) A narrow and specific skill

135. The fixation of correct information through repetition is caused by:

(A) Lecture Method (B) Demonstration Method
(C) Activity Method (D) Drill Method

136. The domain which deals with physical abilities and coordination objectives is called:

(A) Affective Domain (B) Psychomotor Domain

(C) Cognitive Domain
(D) Solo Taxonomy

137. Lecture method is generally described as:
(A) Teacher Centered
(B) Child Centered
(C) Activity Centered
(D) Education Centered

138. The name of Heuristic method is derived from the Greek word:
(A) Hervules
(B) Hero
(C) Heurises
(D) None of the above

139. "Teaching is a form interpersonal influence aimed at the changing the behaviour potential of another is the view presented by:
(A) N.L. Gage
(B) A. Flanders
(C) M.C. Morrison
(D) P.B. Frost

140. Solo taxonomy provides systematic way of describing the learner's:
(A) Ability
(B) Understanding
(C) Performance
(D) Skill

141. Lesson plan makes the work:
(A) Regular
(B) Systematic
(C) Organized
(D) All of above

142. Simulation is an elaborate type of:
(A) Role play
(B) Gaming
(C) Socio drama
(D) All of above

143. Basic feature in lesson planning is:
(A) Content
(B) Method
(C) Objective
(D) Evaluation

144. The method based on the psychological principle of "Trial and Error" is:
(A) Heuristic method
(B) Problem solving method
(C) Project method
(D) Activity method

145. ***A student performs a skill independently at the level of psychomotor domain is:***
(A) Imitation
(B) Manipulation
(C) Precision
(D) Articulation

146. ***Questioning by students is a sign of ________ teaching.***
(A) Experimental
(B) Scholastic
(C) Systematic
(D) Motivated

147. ***Frequent correction of wrong answers is least likely to promote achievement among students of lower:***
(A) Economic status
(B) Socioeconomic status
(C) Social status
(D) Status

148. ***Motivation, in the process of learning, creates interest for learning among young:***
(A) Children
(B) Motivators
(C) Learners
(D) Students

149. ***A psychologist using the method of naturalistic observation would observe behariour as it hapens outside the laboratory or:***
(A) Library
(B) Examination hall
(C) Hospital
(D) Clinic

150. ***The process whereby the genetic factors limit an individual's responsiveness to the environment is called:***
(A) Range of reaction
(B) Range of action
(C) Range of response
(D) Range of experiment

151. ***Career education should begin in:***

(A) 1st grade
(B) Fifth grade
(C) Sixth grade
(D) Kindergarten

152. ***The Gestalt Kheorists augmented the insight theory of:***
(A) Understanding
(B) Learning
(C) Motivation
(D) Association

153. ***Group tests that have norms for each grade and that are administered in accordance with uniform procedures listed in a manual of instruction are called:***
(A) Developmental tests
(B) Qualified tests
(C) Normalized tests
(D) Standardized tests

154. ***When children become active members of their peer group?***
(A) In adolescence
(B) In adulthood
(C) In early age
(D) In childhood

155. ***Discussing an individual pupil's test marks with the class is not a sound mental hygiene:***
(A) Behaviour
(B) Standard
(C) Mark
(D) Practice

156. ***When the majority of students in a science class are well below grade level in reading, who should plan many hands-on activities?***
(A) Teacher
(B) Parents
(C) Educator
(D) Principal

157. ***Frobel's most important contribution to education was his development of:***
(A) Secondary level
(B) Primary level
(C) Elementary level
(D) Kindergarten

158. ***What is a 'dyslexia'?***
(A) Listening disorder
(B) Reading disorder
(C) Mental disorder
(D) Learning disorder

159. ***The teacher should provide the child with purposeful activities that legitimize the need for movement to be successful with an:***
(A) Overactive child
(B) Overintelligent child
(C) Overage child
(D) Overboard child

160. ***A child weak in studies can be improved through counselling and:***
(A) Teaching classes
(B) Remedial classes
(C) Experimental classes
(D) Disciplinary classes

161. ***In which teaching aid, a blackboard can be included?***
(A) Visual aid
(B) Audio aid
(C) Audio-visual aid
(D) Casual aid

162. ***An effective teacher shall ensure competition or ________ as the situation demands.***
(A) Punishment
(B) Teaching
(C) Cooperation
(D) Communication

163. ***Knowledge of child psychology is a must for primary teacher because it helps the teacher in understanding the:***
(A) Nature of children
(B) Behaviour of children
(C) Attitudes of children
(D) Differences of children

164. ***The statement "children actively construct their understanding of the world" is attributed to:***
(A) Kohlberg
(B) Frobel

(C) Pavlov (D) Piaget

165. ***What is called a small machine used in the reading program to increase rate of speed?***

(A) Digital device (B) Tachistoscope

(C) Mnemonic device (D) None of these

166. ***The discovery method of learning is best exemplified by experimentation in a:***

(A) Class (B) Science laboratory

(C) School (D) Ground

167. ***An increase in comprehension skill is most likely to result from guided:***

(A) Habitual reading (B) Effective reading

(C) Oral reading (D) Silent reading

168. ***The current view of childhood assumes that childhood is a unique period of:***

(A) Growth (B) Evolution

(C) Planning (D) Exposure

169. ***The best procedure for a teacher to adopt with a pupil who frequently strammers is to suggest that the parents seek:***

(A) Medicinal help (B) Professional help

(C) Tutorial help (D) Parental help

170. ***Remaining calm and just looking at students is a best way to control noise in:***

(A) Laboratory (B) School

(C) Classroom (D) Assembly

171. ***Creative writing should be an activity planned for:***

(A) All children (B) High class students

(C) Elementary students (D) Special children

172. ***The movement of behaviour modification, wherein tokens are awarded for correct responses, is a reflection of thorndike's law of:***

(A) Behaviour (B) Achievement

(C) Correlation (D) Effect

173. ***In school and classroom environment, the child's __________ development is defined in a best way.***

(A) Cognitive (B) Learning

(C) Psychological (D) Cultural

174. ***To guide student's growth should be a teacher's:***

(A) Domain (B) Matter

(C) Attitude (D) Motto

175. ***A teacher who creates interests in the subject amongst the students is the most:***

(A) Competent (B) Authoritative

(C) Complex (D) Commanding

176. ***Who advanced the idea of the five formal steps in learning?***

(A) Pestalozzi (B) James Franklin

(C) Justin Pfifer (D) Johann Herbert

177. ***"Development is a never endig process." This idea is associated with the principle of:***

(A) Development (B) Performance

(C) Continuity (D) Interrelation

178. *Who proposed the important theories of moral development?*
(A) Herbert (B) Pestalozzi
(C) Coleman (D) Kohlberg

179. *The discovery method of teaching is best exemplified by independent:*
(A) Work projects (B) Test projects
(C) Study projects (D) Tutorial projects

180. *A teacher who loves to ________ will be liked the most by students.*
(A) Teach (B) Work
(C) Study (D) Evaluate

181. *Who presented the educational philosophy that "the individual develops through the head, the heart, and the hand"?*
(A) Kohlberg (B) Frobel
(C) Pestalozzi (D) Herbert

182. *Educational __________ is related to the objective that a teacher should make an attempt to understand the potentialities of students.*
(A) Psychology (B) Philosophy
(C) Ethics (D) Sociology

183. *The teacher introduces a problem-solving lesson with a good motivation and then asks for proposed:*
(A) Ideas (B) Solutions
(C) Suggestions (D) Proposals

184. *Who developed the interactive analysis category system in education for increasing the teacher effectiveness?*
(A) Frobel (B) Pestalozzi
(C) Flander (D) Simon

185. *A child from a _________ home will experience the greatest difficulty with independent study.*
(A) Disorganized (B) Discriminate
(C) Discourse (D) Discouragement

186. *The term 'identical elements' is closely associated with transfer of:*
(A) Feelings (B) Traits
(C) Characteristics (D) Learning

187. *A new teacher to start with will have to establish rapport with the:*
(A) Society (B) Faculty
(C) Students (D) Studies

188. *Students who do better in high school tend to do better in college. This is an example of a positive:*
(A) Participation (B) Understanding
(C) Transference (D) Correlation

189. *Who identified the four distinct stages of children's intellectual development?*
(A) Piaget (B) Simon
(C) Kohlberg (D) Edmond

190. *Teaching at which level is teacher-centered?*

(A) Amateur | (B) Concrete
(C) Authoritarian | (D) Professional

191. ***The medium of education should be:***
(A) National language | (B) International language
(C) Mother language | (D) Regional language

192. ***Teaching is called a noble profession because it is a type of service provided to the:***
(A) Self | (B) Society
(C) Institution | (D) Department

193. ***Dropping out from school means to leave the school:***
(A) Forever | (B) For the time being
(C) Casually | (D) None of these

194. ***As far as socialising agency is concerned, a school can be considered a/an:***
(A) Elementary group | (B) Supplementary group
(C) Primary group | (D) Secondary group

195. ***A successful communicator is the one who knows a lot but is somewhat reserve in his:***
(A) Attitude | (B) Dealings
(C) Communication | (D) Manners

196. ***On whom lies the main responsibility of school management?***
(A) Registrar | (B) School dean
(C) Vice-Principal | (D) Principal

197. ***If any two students are not alike, they differ in their physical and:***
(A) Mental approach | (B) Natural approach
(C) Formal approach | (D) Informal approach

198. ***Who said that "at least one third of the learning that will determine later levels of school achievement has already taken place by age six"?***
(A) Mayer | (B) Frobel
(C) Bloom | (D) Kohlberg

199. ***The main difference between evolutionary and cultural change is that evolutionary change alters heredity whereas cultural change alters:***
(A) Thought | (B) Character
(C) Standards | (D) Environment

200. ***Most educators agree that _________ reading requires an audience situation.***
(A) Oral | (B) Evaluative
(C) Learned | (D) Thorough

****

ANSWERS

1.	C	2.	C	3.	A	4.	B	5.	C
6.	D	7.	C	8.	B	9.	D	10.	A
11.	D	12.	B	13.	A	14.	C	15.	D
16.	A	17.	C	18.	D	19.	D	20.	D
21.	C	22.	A	23.	C	24.	D	25.	A
26.	B	27.	C	28.	C	29.	A	30.	A
31.	B	32.	D	33.	A	34.	D	35.	C

36.	B	37.	D	38.	D	39.	A	40.	C
41.	B	42.	D	43.	D	44.	B	45.	B
46.	A	47.	D	48.	C	49.	A	50.	C
51.	A	52.	B	53.	C	54.	B	55.	D
56.	A	57.	B	58.	C	59.	B	60.	C
61.	B	62.	C	63.	D	64.	A	65.	D
66.	D	67.	B	68.	B	69.	D	70.	C
71.	C	72.	C	73.	C	74.	B	75.	C
76.	D	77.	B	78.	B	79.	B	80.	B
81.	B	82.	D	83.	D	84.	D	85.	B
86.	A	87.	B	88.	C	89.	D	90.	D
91.	B	92.	A	93.	D	94.	D	95.	D
96.	D	97.	B	98.	B	99.	D	100.	B
101.	B	102.	D	103.	D	104.	A	105.	A
106.	B	107.	A	108.	A	109.	C	110.	A
111.	A	112.	A	113.	C	114.	C	115.	C
116.	C	117.	D	118.	D	119.	D	120.	C
121.	D	122.	C	123.	C	124.	A	125.	C
126.	B	127.	D	128.	B	129.	C	130.	D
131.	B	132.	D	133.	A	134.	D	135.	D
136.	B	137.	A	138.	C	139.	A	140.	C
141.	D	142.	D	143.	C	144.	A	145.	D
146.	D	147.	B	148.	C	149.	D	150.	A
151.	D	152.	B	153.	D	154.	A	155.	D
156.	A	157.	D	158.	B	159.	A	160.	B
161.	A	162.	C	163.	B	164.	D	165.	B
166.	B	167.	D	168.	A	169.	B	170.	C
171.	A	172.	D	173.	A	174.	D	175.	A
176.	D	177.	C	178.	D	179.	C	180.	A
181.	C	182.	A	183.	B	184.	C	185.	A
186.	D	187.	C	188.	D	189.	A	190.	C
191.	A	192.	B	193.	A	194.	D	195.	A
196.	D	197.	A	198.	C	199.	D	200.	A

SCIENCE

****

OBJECTIVE TYPE QUESTIONS

1. MULTIPLE CHOICE QUESTIONS (MCQs)

SET-I

1. Structure of Living Things

- ***Choose the correct answers:***

1. *Plants and animals are made up of:*
(A) Nucleus (B) Cells
(C) Organisms (D) Cytoplasm

2. *In plants, the cell membrane is surrounded by a thick:*
(A) Cell wall (B) Membrane
(C) Cell cover (D) Body

3. *A cell consists of --------- main parts.*
(A) Two (B) Four
(C) Three (C) Five

4. *The cell is a unit which is present in all --------- organisms.*
(A) Non-living (B) Living
(C) Kind of (C) Unicellular

5. *The thin layer which encloses the nucleus is:*
(A) Cell membrane (B) Membrane
(C) Nuclear membrane (D) Cell wall

6. *The jelly-like substance which is present in the cell is:*
(A) Nucleoplasm (B) Plasma
(C) Chloroplast (D) Cytoplasm

7. *Lungs and hearts are present in ------ organisms such as frogs and rabbits.*
(A) Unicellular (B) Multicellular
(C) Living (D) Non-living

8. *Amoeba and bacteria are both single celled:*
(A) Animals (B) Plants
(C) Insects (D) Reptiles

9. *Amoeba is different from other unicellular organisms because it is:*
(A) Regular shaped (B) Oval shaped
(C) Irregular shaped (D) Shoe shaped

10. *Vacuole in unicellular organisms, stores the food material and removes the ---- material.*
(A) Organic (B) Useful
(C) Waste. (D) Food

11. *Which is the controlling center of the cell ?*
(A) Cell membrane (B) Nucleus
(C) Nucleolus (D) Cytoplasm

12. *--------- plays an important role in cell division.*
(A) Cell (B) Nucleus
(C) Vacuole (D) Cell wall

13. *Chloroplasts are absent in ------ cells.*
(A) Animal (B) Plant
(C) Blood (D) Body

14. *Unicellular organisms are formed by only ________ cell(s).*
(A) Two (B) One
(C) Ten (D) Five

15. *The exchange of gases (oxygen and carbon dioxide)is possible through:*
(A) Digestive system (B) Circulatory system
(C) Environment (D) Respiratory system

16. *The heart ---- blood to all parts of our body.*
(A) Takes (B) Provide
(C) Flows (D) Pumps

17. *The outermost boundary of plant cells is:*
(A) Solid wall (B) Cell membrane
(C) Cell wall (D) Nuclear membrane

18. *The ---- produced in body is used by us to work, to move and to grow.*

(A) Power (B) Energy
(C) Oxygen (D) Food

19. *What is the correct sequence ?*
(A) Sperm-Egg-Zygote-Embryo (B) Sperm-Zygote-Egg-Embryo
(C) Zygote-Embryo-Sperm-Egg (D) Embryo-Zygote-Egg-Sperm

20. *The thin layer which encloses the nucleus is called:*
(A) Cell membrane (B) Vacuole
(C) Nucleus membrane (D) None of these

ANSWERS

1.	B	2.	A	3.	C	4.	B	5.	C
6.	D	7.	B	8.	A	9.	C	10.	C
11.	B	12.	B	13.	A	14.	B	15.	D
16.	D	17.	C	18.	B	19.	A	20.	C

2. Major Life Process-I

- ***Select the right answer:***

1. *The process of getting energy from food is called:*
(A) Digestion (B) Respiration
(C) Breathing (D) Nutrition

2. *The food we eat is known as:*
(A) Material (B) Nutrient
(C) Meal (D) Starch

3. *Things like glucose, cane sugar and starch are known as:*
(A) Carbohydrates (B) Fats
(C) Proteins (D) Inorganic material

4. *-------- is present in potatoes, rice, corn and wheat.*
(A) Sugar (B) Starch
(C) Fat (D) Oils

5. *-------- is processed to make cream, butter and ghee.*
(A) Oil (B) Starch
(C) Milk (D) Protein

6. *Fats and oils are also very high -------- food.*
(A) Power (B) Energy
(C) Lubricant (D) Value

7. *Proteins form about -------- by weight of human body.*
(A) 12-16 % (B) 10-12 %
(C) 30-40 % (D) 12-18 %

8. *To regulate functions of thyroid glands, we need:*
(A) Iodine (B) Calcium
(C) Phosphorous (D) Iron

9. *Iron is necessary for the formation of blood:*
(A) Red blood cells (B) Haemoglobin
(C) White blood cells (D) Plasma

10. *-------- are chemical substances needed by the body in very small quantities.*
(A) Minerals (B) Proteins
(C) Vitamins (D) Starch

11. *Calcium, Sodium and Iron are:*
(A) Salts (B) Proteins
(C) Vitamins (D) Minerals

12. *-------- are very often represented by English alphabets.*
(A) Minerals (B) Carbohydrates
(C) Vitamins (D) Fats

13. *Deficiency of Vitamin -------- causes night blindness.*
(A) B (B) A
(C) K (D) C

14. *Deficiency of Iodine causes:*
(A) Beri Beri (B) Goitre
(C) Weakness (D) Rickets

15. *Deficiency of Vitamin A causes:*
(A) Malaria (B) Night Blindness
(C) Tuberculosis (D) Beri Beri

16. *Deficiency of Vitamin D causes:*
(A) Rickets (B) Scurvy
(C) Pellagra (D) Beri Beri

17. *Carbohydrates consist of:*
(A) Carbon-Hydrogen-Oxygen (B) Carbon-Hydrogen-Nitrogen
(C) Carbon-Nitrogen-Oxygen (D) Oxygen-Hydrogen-Nitrogen

18. *Saliva is secreted by three -------- situated above, below and back of the tongue.*
(A) Tissues (B) Organs

(C) Bodies (D) Glands

19. *The human kidney collects urea from -------- and passes it to the bladder as urine.*

(A) Stomach (B) Intestines
(C) Blood (D) Water

20. *Iodine solution is used for testing the presence of -------- in potato.*

(A) Starch (B) Oil
(C) Fats (D) Vitamins

21. *Chyme is a thick liquid form of food present in the:*

(A) Oesophagus (B) Stomach
(C) Liver (D) Pancreas

22. *Removal of -------- and other waste products is essential in healthy bodies.*

(A) Carbon dioxide (B) Oxygen
(C) Water (D) Fats

23. *Which one of the following contains the greatest proportion of fat ?*

(A) Milk (B) Tomatoes
(C) Spinach (D) Pulses

24. *Sun flower seeds are used in manufacturing:*

(A) Ghee (B) Butter
(C) Cheese (D) Cooking Oil

25. *The basic unit for preparation of food in green plants is:*

(A) Leaves (B) Cytoplasm
(C) Chloroplast (D) Protoplasm

26. *The first product prepared by the process of photosynthesis is:*

(A) Oil (B) Sugar
(C) Protein (D) Fat

27. *The process during which energy is produced in the body from food is:*

(A) Breathing (B) Digestion
(C) Excretion (D) Respiration

28. *-------- are the small pores present on the surface of leaves.*

(A) Stomata (B) Spots
(C) Fungus (D) Sacs

29. *Kidneys contain many small microscopic tubes called:*

(A) Capillaries (B) Nephrons
(C) Veins (D) Tracheas

30. *The removal of carbon dioxide, urine and sweat is a process of:*

(A) Digestion (B) Respiration
(C) Breathing (D) Excretion

31. *The juices secreted by the walls of stomach are called:*

(A) Bile (B) Pancreatic juices
(C) Gastric juices (D) Saliva

32. *The juice secreted by the walls of stomach acts on:*

(A) Proteins (B) Carbohydrates
(C) Salts (D) Fats

33. *Saliva helps the digestion of:*

(A) Proteins (B) Fats
(C) Minerals (D) Carbohydrates

34. *Water and mineral salts are absorbed by:*

(A) Stomach (B) Small intestine
(C) Large intestine (D) None of these

ANSWERS

1.	D	2.	B	3.	A	4.	B	5.	C
6.	B	7.	D	8.	A	9.	B	10.	C
11.	D	12.	C	13.	B	14.	B	15.	B
16.	A	17.	A	18.	D	19.	C	20.	A
21.	B	22.	A	23.	A	24.	A	25.	C
26.	B	27.	D	28.	A	29.	B	30.	B
31.	C	32.	A	33.	D	34.	C		

3. Major Life Process-II

- ***Mark with a (✓) the right answer in each of the following questions:***

1. *The temperature of plant is regulated by a process called:*

(A) Transportation (B) Respiration
(C) Breathing (D) Walking

2. *In the blood circulatory system, the -------- works as pump.*

(A) Heart (B) Capillary
(C) Vein (D) Lung

3. *The messages, we receive from the environment are sent as signals to the spinal cord by sensory:*

(A) Cells (B) Muscles
(C) Nerves (D) Cords

4. *A neuron is a long ---- cell.*

(A) Nerve (B) Muscle
(C) Divided (D) Branched

5. *The pores present on the surface of -*

(A) Skin (B) Body
(C) Plants (D) Leaves

6. *The amount of blood in the circulatory system of a 25 years old person of an average size is:*
(A) Less than 2 litres (B) Between 2 and 4 litres
(C) Between 4 and 6 litres (D) Between 6 and 10 litres

7. *Which one of the following causes blood to exit from the heart ?*
(A) An auricle relaxes (B) An auricle contracts
(C) A ventricle relaxes (D) An auricle contracts

8. *Which one of the following contain mostly deoxygenated blood ?*
(A) Aorta (B) Veins
(C) Arteries (D) Pulmonary artery

9. *Which one of the following is not true for arteries ?*
(A) They have thick walls (B) They have many valves
(C) Carry blood away from heart (D) Pulse rate is measured from them

10. *Which one of the following part of a plant absorbs water, minerals and salts ?*
(A) Root (B) Stem
(C) Leaf (D) Flower

11. *Which one of the following carries messages through the body ?*
(A) Muscles (B) Tissues
(C) Nerves (D) Blood

12. *Select one of the following organs which is protected by ribs:*
(A) Kidney (B) Brain
(C) Heart (D) Stomach

13. *Blood from the body first enters the ------- of heart.*
(A) Right auricle (B) Left auricle
(C) Right ventricle (D) Left ventricle

14. *The Aorta is ------- which supplies oxygenated blood to all parts of the body.*
(A) A vein (B) An artery
(C)

15. *A reflex action is a ------- reaction in response to a stimulus.*
(A) Slow (B) Fast
(C) Quick (D) Sudden

16. *Human heart has:*
(A) One chamber (B) Two chambers
(C) Three chambers (D) Four chambers

17 *Which one of the following carries message through the body:*
(A) Muscles (B) Blood
(C) Nerves (D) Tissues

18 *A reflex action is the sudden response to a:*
(A) Brain order (B) Stimulus
(C) Human needs (D) None of these

19. *The brain consists of:*
(A) Two major parts (B) Three major parts
(C) Four major parts (D) Five major parts

20. *The vessels which take blood away from heart to various organs are called:*
(A) Arteries (B) Veins
(C) Capillaries (D) Tubes

21. *Blood is a mixture of cells suspended in a liquid called:*
(A) Mixture (B) Plasma
(C) Saliva (D) Fluid

22. *Evaporation of water from the surface of the plant is known as:*
(A) Diffusion (B) Osmosis
(C) Transportation (D) Photosynthesis

23. *Water absorbed by the roots, rises up in the stem through:*
(A) Phloem vessels (B) Vessels
(C) Tubules (D) Xylem vessels

24. *The pulling force of transportation is known as the -------.*
(A) Sucking pull (B) Transportational pull
(C) Absorption (D) Pressure

25. *Transportation provides water to the plants for the -------.*
(A) Life activity (B) Photosynthesis
(C) Respiration (D) Evaporation

26. A human skeleton consists of -------- bones.

(A) 106 (B) 206

(C) 306 (D) 406

27. Human bones have been divided into ——— types.

(A) Four (B) Three

(C) Two (D) Five

28. Flat bones are found in skull and -----.

(A) Legs (B) Chest

(C) Shoulders (D) Ankle

29. -------- bones are found in legs, arms and chest.

(A) Flat (B) Small

(C) Round (D) Long

30. Small bones are found in wrist and -------.

(A) Ankle (B) Skull

(C) Arms (D) Legs

31. Vertebrae and hip bones are the examples of -------- bones.

(A) Long (B) Irregular

(C) Flat (D) Small

32. -------- directs and determines human activities.

(A) Heart (B) Blood

(C) Brain (D) Head

33. The brain, the spinal cord and the nerves form the -------- nervous system.

(A) Total (B) Whole

(C) Complete (D) Central

ANSWERS

1.	A	2.	B	3.	C	4.	D	5.	D
6.	C	7.	D	8.	B	9.	A	10.	A
11.	C	12.	C	13.	B	14.	B	15.	D
16.	D	17.	C	18.	B	19.	B	20.	A
21.	B	22.	C	23.	D	24.	B	25.	B
26.	B	27.	A	28.	C	29.	D	30.	A
31.	B	32.	C	33.	D				

4. Reproduction

- ***Pick the correct answer:***

1. ——— is the process by which all organisms produce next generation members of their own kind.

(A) Development (B) Reproduction

(C) Growth (D) Transmission

2. When organisms reproduce by ------- methods, sex cells are not involved in the reproductive process.

(A) Asexual (B) Reproduction

(C) Sexual (D) Bisexual

3. In flowers, the main purpose of the --------- is to protect the inner parts.

(A) Petals (B) Stamens

(C) Ovary (D) Sepals

4. During pollination, the ——— of a flower receives pollen grains.

(A) Style (B) Ovary

(C) Stigma (D) Carpel

5. New plants develop from runners when roots and -------- form at joints.

(A) Branches (B) Leaves

(C) Stem (D) Shoots

6. Which one of the following is not a process involved in asexual reproduction of plants:

(A) Budding (B) Fertilization

(C) Cutting (D) Grafting

7. Select from the following that reproduce both sexually and asexually:

(A) Frog (B) Hydra

(C) Amoeba (D) Bacteria

8. In animals, fertilization of an egg takes place in the:

(A) Ovary (B) Testes

(C) Oviduct (D) Tubule

9 Which one of the following is the correct sequence:

(A) Zygote-Embryo-Sex cells-Baby (B) Sex cells-Zygote-Embryo-Baby

(C) Embryo-Zygote-Sex cells-Baby (D) None of these

10. Suppose you read that a particular plant can form gametes. Which one of the following must be true:

(A) The plant can produce nectar (B) The plant has several ovules

(C) The plant can reproduce (D) The plant is self-pollinating

sexually

11. A fertilized egg divides and re-divides to form the:
(A) Zygote (B) Baby
(C) Gamete (D) Embryo

12. When a seed germinates, the ------- emerges first and this grows into the stem of the new plant.
(A) Radicle (B) Root
(C) Plumule (D) Leaf

13. The three primary conditions for the germination of a seed are a supply of water, the presence of ------- and a suitable temperature.
(A) Nitrogen (B) Oxygen
(C) Hydrogen (D) Carbon

14. The insoluble substance contained in a seed is called:
(A) Membrane (B) Starch
(C) Pollen (D) None of these

15. To mature the human embryo takes:
(A) Four months (B) Six months
(C) Nine months (D) One year

16. Sperm and egg cells fuse to form a --------.
(A) Zygote (B) Embryo
(C) Baby (D) Individual

17. The sperms and eggs are together given the name of:
(A) Pollen (B) Cell
(C) Gamete (D) Granule

18. The fusion of male and female cells is known as:
(A) Reproduction (B) Fertilization
(C) Combination (D) Pollination

19. A flower is the ------- organ of plants.
(A) Vegetative (B) Reproductive
(C) Central (D) Sex

20. Each stamen consists of a filament and a/an:
(A) Stigma (B) Carpel
(C) Stalk (D) Anther

21. The ------- grows up to form the fruit.
(A) Flower (B) Carpel
(C) Ovary (D) Ovule

22. The sepals and petals are regarded as -------- parts of a flower.
(A) Non-essential (B) Essential
(C) Necessary (D) Important

23. The transfer of pollen grains from the anther to the stigma of the flower is called:
(A) Pollination (B) Fertilization
(C) Germination (D) Reproduction

24. Fruit is sometimes defined as a:
(A) Ripened ovule (B) Ripened ovary
(C) Ripened flower (D) None of these

25. When the pollen grains of a flower are transferred to the stigma of the same flower, it is called:
(A) Pollination (B) Cross-pollination
(C) Self-pollination (D) Germination

26. During respiration and growth, -------- reactions take place.
(A) Physical (B) Chemical
(C) Reverse (D) Slow

27. Asexual reproduction in plants is also known as --------- reproduction.
(A) Sexual (B) Rapid
(C) Bisexual (D) Vegetative

ANSWERS

1.	B	2.	A	3.	D	4.	C	5.	D
6.	B	7.	B	8.	A	9.	B	10.	C
11.	D	12.	C	13.	B	14.	B	15.	C
16.	A	17.	C	18.	B	19.	B	20.	D
21.	C	22.	A	23.	A	24.	B	25.	C
26.	B	27.	D						

5. Matter

- ***Choose the correct word which best completes each statement:***

1. All things which occupy space and have weight are called:
(A) Matter (B) Compounds
(C) Substances (D) None of these

2. Matter is made up of:
(A) Crystals (B) Vapours
(C) Drops (D) Particles

3. The -------- energy of the particles of solids is not great enough.
(A) Potential (B) Electric

(C) Magnetic (D) Kinetic

4. *In gases, the binding force between particles is:*
(A) Strong (B) Weak
(C) Negligible (D) None of these

5. *The smallest particle, of water retains its properties is called a ------ of water.*
(A) Atom (B) Compound
(C) Drop (D) Molecule

6. *A molecule of a compound is formed of two or more than two:*
(A) Atoms (B) Particles
(C) Parts (D) Grains

7. *The smallest indivisible particle of matter is called:*
(A) Atom (B) Molecule
(C) Drop (D) Nucleus

8. *Atoms are made up of protons, neutrons and:*
(A) Positrons (B) Electrons
(C) Isotopes (D) Particles

9. *The sum of protons and neutrons in the nucleus of an atom is called its:*
(A) Molecular mass (B) Molecular weight
(C) Atomic mass (D) Atomic number

10. *The number of protons in an atom is called its:*
(A) Molecular number (B) Atomic mass
(C) Molecular mass (D) Atomic number

11. *Atomic number of Hydrogen is:*
(A) 0 (B) 1
(C) 2 (D) 3

12. *Atomic number of Helium is:*
(A) 1 (B) 2
(C) 3 (D) 4

13. *The change in which new substances are formed is called a:*
(A) Physical change (B) Chemical change
(C) Permanent change (D) New change

14. *In a molecule, the atoms of elements are always present in a ------- proportion.*
(A) Definite (B) Proper
(C) Indefinite (D) Equal

15. *The space around the nucleus is called the ------- nuclear space of the atom.*
(A) Super (B) Magnetic
(C) Extra (D) Excess

16. *Molecules are made up of:*
(A) Electrons (B) Protons
(C) Neutrons (D) Atoms

17. *The chemical change of rust is -------.*
(A) Iron chloride (B) Iron oxide
(C) Iron hydride (D) Iron sulphide

18. *Helium gas has:*
(A) One proton (B) Two protons
(C) Three protons (D) Four protons

19. *On heating, the kinetic energy of molecules:*
(A) Increases (B) Decreases
(C) Remains constant (D) May increase or decrease

20. *Three of the following substances are alike in an important way. Select the one that is different.*
(A) Water (B) Sugar
(C) Common Salt (D) Air

21. *Water is being heated from 30°C to 60°C. During this process, the average kinetic energy of the molecules of water:*
(A) Is increasing (B) Is decreasing
(C) Is constant (D) Varies

22. *Steam is being cooled into water. The inter-molecular attractions between the molecules of the water:*
(A) May be higher or lower than those in steam (B) Are lower than those in steam
(C) Are equal to those in steam (D) Are higher than those in steam

23. *The atoms of elements combined in a fixed proportion is a:*
(A) Mixture (B) Compound
(C) Solution (D) None of these

24. *The formation of ice-cream involves:*
(A) Physical (B) Chemical

change / change
(C) Both A and B (D) None of these

25. *Burning is a ------- process, during burning new substances are formed.*
(A) Chemical (B) Permanent
(C) Physical (D) Slow

26. *In a --------, none of the component retains its original properties.*
(A) Mixture (B) Compound
(C) Solution (D) Syrup

27. *A molecule of sugar, for example, glucose, is formed of atoms of Hydrogen, Oxygen and:*
(A) Nitrogen (B) Carbon
(C) Helium (D) Sodium

28. *-------- is a pure substance that cannot be broken down into simpler substances by ordinary chemical processes.*
(A) Matter (B) Compound
(C) Mixture (D) Element

29. *Calcium Oxide is a:*
(A) Metal (B) Pearl
(C) Stone (D) Liquid

30. *Calcium Oxide + Water -------.*
(A) Calcium (B) Calcium Hydroxide
(C) Hydride (D) Oxygen and Hydrogen

ANSWERS

1.	A	2.	D	3.	D	4.	C	5.	D
6.	A	7.	A	8.	B	9.	C	10.	D
11.	B	12.	B	13.	B	14.	A	15.	C
16.	D	17.	B	18.	B	19.	A	20.	D
21.	A	22.	D	23.	B	24.	C	25.	A
26.	B	27.	B	28.	D	29.	C	30.	A

6. Force and Work

- ***Choose the correct answer:***

1. *A body will remain at rest until a ------- acts on it.*
(A) Man (B) Boy
(C) Force (D) Pressure

2. *A ------- pulley changes the direction of the load.*
(A) Fixed (B) Movable
(C) Both A and B (D) Strong

3. *Push and pull are both words used in place of -------.*
(A) Work (B) Pulley
(C) Force (D) Axle

4. *Fraction can be ------ by using oil or grease.*
(A) Removed (B) Increased
(C) Balanced (D) Reduced

5. *An object falls towards the Earth due to the force of:*
(A) Gravitation (B) Friction
(C) Earth (D) Air

6. *The propeller of a small plane pushes the -------- to make the plane move forward.*
(A) Air (B) Space
(C) Plane (D) Force

7. *A wheel only becomes a -------- when it is combined with an axle.*
(A) Pulley (B) Machine
(C) Gear (D) Cart

8. *When a force moves a body, the force does ------- on the body.*
(A) Move (B) Work
(C) Act (D) Play

9. *A fixed pulley changes the:*
(A) Function of machine (B) Direction of load
(C) Efficiency of machine (D) None of these

10. *When a surface slides over another, the force of friction between them acts:*
(A) In the direction of sliding surface (B) Perpendicular to the direction of sliding surface
(C) Opposite to the direction of sliding surface (D) In all directions

11. *When a force is applied in one direction, this is called:*
(A) Action (B) Reaction
(C) Work (D) Push

12. *To every action, there is an equal and ------- reaction.*
(A) Balanced (B) Forceful
(C) Same (D) Opposite

13. *A swimmer pushes the water in a backward direction to move:*

21. *Coal is an organic:*
(A) Metamorphic rock (B) Igneous rock
(C) Sedimentary rock (D) Chemical

22. *All organic materials contain the elements of:*
(A) Carbon and Nitrogen (B) Carbon and Hydrogen
(C) Nitrogen and Oxygen (D) Oxygen and Hydrogen

23. *"Rock Oil" means:*
(A) Coal (B) Natural gas
(C) Gypsum (D) Petroleum

24. *The product of the decomposition is called:*
(A) Crust (B) Mineral
(C) Humus (D) Fossil

25. *Soil consists of about ------- rock material.*
(A) 60 % (B) 70 %
(C) 80 % (D) 90 %

26. *Glacier is nothing but tonnes of:*
(A) Snow (B) Ice
(C) Water (D) Soil

27. *Water in oceans warms up and cools down -------- than land.*
(A) More slowly (B) More rapidly
(C) Fastly (D) None of these

28. *Broken blocks of glacier which happen to float in the sea are called:*
(A) Seabergs (B) Icebergs
(C) Snowbergs (D) Glacierbergs

ANSWERS

1.	B	2.	B	3.	A	4.	D	5.	A
6.	B	7.	C	8.	A	9.	B	10.	D
11.	C	12.	A	13.	C	14.	B	15.	B
16.	D	17.	C	18.	A	19.	A	20.	B
21.	C	22.	B	23.	D	24.	C	25.	D
26.	B	27.	A	28.	B				

SET-II

1. MULTIPLE CHOICE QUESTIONS (MCQs)

Encircle the correct answer in the following:

(1) The movement of water molecules through a selectively permeable membrane from an area of higher concentration to an area of lower concentration is called:
(a) Conduction (b) Diffusion
(c) Evaporation (d) Osmosis

(2) Fruit is formed from:
(a) Ovary (b) Ovule
(c) Stem (d) Leaves

(3) Endosperm is present in:
(a) Anther (b) Xylem
(c) Stigma (d) Seed

(4) Which is not a part of the embryo?
(a) Cotyledon (b) Radicle
(c) Pedicel (d) Plumule

(5) Which statement is not true for insectivorous plants?
(a) Chlorophyll is not present (b) Unable to make glucose
(c) Capture insects through roots (d) Utilize their nitrogenous needs from insects

(6) Which part of the plant is called the food factory?
(a) Fruit (b) Leaves
(c) Root (d) Stem

(7) Speed of sound through water is:
(a) 100 m/sec (b) 500 m/sec
(c) 1000 m/sec (d) 1500 m/sec

(8) An electric generator converts:
(a) Electrical energy in mechanical energy (b) Both a and d
(c) Neither a and d (d) Mechanical energy into electrical energy

(9) Coal, petroleum and natural gas are called:

(A) Backward (B) Fast
(C) Forward (D) Slow

14. *The motion of boats and ships on water is due to the force of:*
(A) Reaction (B) Pull
(C) Push (D) Water

15. *A rocket is used to carry men and equipment in:*
(A) Environment (B) Air
(C) Space (D) Universe

16. *Tension is the force produced in a body when it is ——.*
(A) Pressed (B) Stretched
(C) Pushed (D) Strengthened

17. *Friction is the force that resists or tries to resist the ------ of one material over another material.*
(A) Work (B) Force
(C) Movement (D) Pressure

18. *To stop moving vehicles, we use:*
(A) Brakes (B) Shaft
(C) Clutches (D) Paddle

19. *------- is often performed with the help of machines.*
(A) Function (B) Sliding
(C) Movement (D) Work

20. *A pulley or wooden planks are termed as:*
(A) Instruments (B) Machines
(C) Tools (D) Equipments

21. *Simple machines are usually grouped into:*
(A) Five categories (B) Six categories
(C) Four categories (D) Seven categories

22. *------ is the simplest of all the machines.*
(A) Pulley (B) Wedge
(C) Lever (D) Screw

23. *Levers are usually of:*
(A) Two types (B) One type
(C) Four types (D) Three types

24. *A -------- is one of the most important inventions of man.*
(A) Computer (B) Wheel
(C) Pulley (D) Engine

25. *A —— is a wheel with a groove made along its circumference so that a rope can move around it.*
(A) Circle (B) Pulley
(C) Lever (D) Fulcrum

26. *There are two types of pulley —— fixed pulley and:*
(A) Closed pulley (B) Unmovable pulley
(C) Movable pulley (D) Open pulley

27. *Movable pulleys have wide use in heavy industries for lifting and moving:*
(A) Heavy machinery (B) Light machinery
(C) Important machinery (D) Delicate machinery

28. *An inclined plane is also a simple:*
(A) Plank (B) Mechanism
(C) Machine (D) Wedge

29. *A ------ is a sort of double inclined plane.*
(A) Machine (B) Wedge
(C) Pulley (D) Axle

30. *------ is an agent which changes the state of an object.*
(A) Work (B) Power
(C) Energy (D) Force

ANSWERS

1.	C	2.	B	3.	C	4.	D	5.	A
6.	A	7.	B	8.	B	9.	B	10.	C
11.	A	12.	D	13.	C	14.	A	15.	C
16.	B	17.	C	18.	A	19.	D	20.	B
21.	A	22.	C	23.	D	24.	B	25.	B
26.	C	27.	A	28.	C	29.	B	30.	D

7. Heat

- ***Mark with a (✓) the right answer in each of the following questions:***

1. *The Sun is a major source of:*
(A) Light (B) Energy
(C) Power (D) Heat

2. *Heat is a form of:*
(A) Light (B) Power
(C) Energy (D) Temperature

3. *Heat from the Sun reaches Earth by:*
(A) Conduction (B) Radiation
(C) Convection (D) Vaporisation

4. *When the air in a car tyre becomes hot, it expands causing the pressure*

it exerts to:

(A) Increase (B) Decrease
(C) Contract (D) Expand

5. *A sea breeze occurs during the day when the air over the land is ------- than the air over the sea.*

(A) Hotter (B) Lighter
(C) Cooler (D) Heavier

6. *There are 100 Celsius degrees between the freezing point of water and the ------ point of water.*

(A) Heating (B) Boiling
(C) Cooling (D) Evaporating

7. *Heat energy is because of the movement of:*

(A) Atoms (B) Particles
(C) Molecules (D) Electricity

8. *Heat is transmitted through solids by a process called:*

(A) Radiation (B) Convection
(C) Diffusion (D) Conduction

9. *On heating, solids expand in all:*

(A) Spaces (B) Directions
(C) Parts (D) None of these

10. *A thermometer is the instrument used for measuring:*

(A) Heat (B) Energy
(C) Temperature (D) Length

11. *On heating, the kinetic energy of molecules:*

(A) Increases (B) Decreases
(C) Remains constant (D) May increase or decrease

12. *Ice point on Celsius Scale is taken as:*

(A) 32 degrees (B) Zero degree
(C) 100 degrees (D) 212 degrees

13. *The boiling point of water on Centigrade Scale is:*

(A) 212°C (B) 100°C
(C) 150°C (D) 90°C

14. *Melting point of ice on Fahrenheit Scale is taken as:*

(A) Zero degree (B) 32 degrees
(C) 212 degrees (D) 12 degrees

15. *Mercury is a good thermometric material because:*

(A) It is opaque (B) It is shining
(C) Its thermal expansion is constant (D) It is transparent

16. *The formulae for conversion of C to F is:*

(A) $C = \frac{5}{9}(F+32)$ (B) $F = \frac{5}{9}(C-32)$
(C) $C = \frac{9}{5}(F-32)$ (D) $C = \frac{5}{9}(F-32)$

17. *A vacuum flask minimizes:*

(A) Conduction (B) Convection
(C) Radiation (D) All of these

18. *Heat and temperature are:*

(A) The same thing (B) Not the same thing
(C) The new thing (D) None of these

19. *Different objects expand at:*

(A) Different rates (B) Same rates
(C) Noon (D) Night

20. *Temperature of human body is measured by:*

(A) Fahrenheit thermometer (B) Clinical thermometer
(C) Minimum thermometer (D) Maximum thermometer

21. *Liquids expand ------- than solids.*

(A) Less (B) Better
(C) More (D) None of these

22. *A black surface is a better ------ and absorber of heat than a white surface.*

(A) Reflector (B) Conductor
(C) Evaporator (D) Radiator

23. *All metals are good:*

(A) Conductors (B) Absorbers
(C) Radiators (D) Insulators

24. *Substances which do not allow heat to pass through them are called:*

(A) Conductors (B) Insulators
(C) Absorbers (D) Radiators

25. *------- is the transmission of heat by waves emitted by hot substances.*

(A) Conduction (B) Convection
(C) Radiation (D) None of these

26. *The normal temperature of a healthy person's body is about:*

(A) 97.4° F (B) 98.6° F
(C) 96.4° F (D) 98.4° F

ANSWERS

1.	D	2.	C	3.	B	4.	A	5.	A
6.	B	7.	C	8.	D	9.	B	10.	C

11.	A	12.	B	13.	B	14.	B	15.	C
16.	D	17.	D	18.	B	19.	A	20.	B
21.	C	22.	D	23.	A	24.	B	25.	C
26.	D								

8. Light

● ***Pick the correct answer:***

1. Light is a form of:
(A) Energy (B) Force
(C) Electricity (D) Power

2. Light travels in:
(A) Vertical lines (B) Zigzag lines
(C) Perpendicular lines (D) Straight lines

3. Speed of light is approximately ------- kilometres per second.
(A) 3,00,00,000 (B) 30,00,000
(C) 3,00,000 (D) 3,000

4. With respect to light, materials have been divided into:
(A) Two kinds (B) Three kinds
(C) Four kinds (D) Five kinds

5. Materials which do not allow the light to pass through them are called:
(A) Transparent (B) Opaque
(C) Translucent (D) Thick

6. Transparent materials make no —— — when placed in the path of light.
(A) Shadows (B) Images
(C) Figures (D) Ways

7. Light is able to pass partially through:
(A) Opaque materials (B) Translucent materials
(C) Liquid materials (D) Transparent materials

8. A solar eclipse occurs when the moon comes in between the Sun and:
(A) The Earth (B) The clouds
(C) The stars (D) The air

9. -------- occurs when the Earth moves in between the Sun and the Moon.
(A) Solar eclipse (B) Eclipse
(C) Lunar eclipse (D) Sun eclipse

10. When the light falls on a cricket bat, a shadow is formed because the bat is:
(A) Transparent (B) Translucent
(C) Solid (D) Opaque

11. In a candle, ------- energy is changed into light energy.
(A) Electrical (B) Potential
(C) Chemical (D) Heat

12. How long after an explosion on the Moon would we first see its light on Earth?
(A) About $^{1}/_{10}$ sec (B) About 1 sec
(C) About 10 sec (D) About 1 min

13. Select one from the following which do not emit light:
(A) Moon (B) Sun
(C) Satellite (D) Star

14. Select one from the following which emits light:
(A) Glass (B) Mirror
(C) Moon (D) Stars

15. The Sun is approximately ------- million kilometres away from the Earth.
(A) 300 (B) 150
(C) 600 (D) 50

16. Light from the Sun reaches the Earth in about:
(A) 15 minutes (B) 2 minutes
(C) 8 minutes (D) 18 minutes

ANSWERS

1.	A	2.	D	3.	C	4.	B	5.	B
6.	A	7.	B	8.	A	9.	C	10.	D
11.	C	12.	B	13.	A	14.	D	15.	B
16.	C								

9. Electricity and Magnetism

● ***Select the best suitable answer from A, B, C and D.***

1. A body which is short of electrons has a ------- charge on it.
(A) Negative (B) Positive
(C) Neutral (D) Positive and Negative

2. Metals which allow an electric current to flow through them easily are called:
(A) Conductors (B) Radiators

(C) Transmitters (D) Electromagnetics

3. *Electromagnetics are sometimes called conductor magnetics and have a:*
(A) Hard iron core (B) Soft magnetic core
(C) Soft iron core (D) Soft zinc core

4. *The filament of light bulb is usually made of:*
(A) Iron (B) Silver
(C) Copper (D) Nichrome

5. *Nichrome is a metal which ------- the flow of electricity.*
(A) Allows (B) Resists
(C) Increases (D) Decreases

6. *The area around the magnet is called a:*
(A) Magnetic field (B) Electric field
(C) Magnetic cloud (D) Positive field

7. *As the distance from the magnet increases, the strength of magnetic field:*
(A) Increases (B) Decreases
(C) Remains the same (D) May increase or decrease

8. *The complete name for the north pole of a magnet is the:*
(A) North seeking pole (B) South seeking pole
(C) Attracting pole (D) Repelling pole

9. *The north poles of two magnets ------ each other.*
(A) Attract (B) Stroke
(C) Repel (D) Pull

10. *North pole of one magnet ------- the south pole of another magnet.*
(A) Repels (B) Pushes
(C) Attracts (D) Pulls

11. *An electric current is flow of:*
(A) Protons (B) Electrons
(C) Neutrons (D) Particles

12. *Nichrome is a high resistance:*
(A) Solid (B) Material
(C) Element (D) Metal

13. *Electricity can be converted into:*
(A) Mechanical energy (B) Light energy
(C) Sound energy (D) All of these

14. *Electricity can flow through:*
(A) Copper (B) Wood
(C) Plastic (D) Rubber

15. *Electricity is a form of:*
(A) Heat (B) Energy
(C) Light (D) Power

16. *Electricity flows easily through some ------- like copper and aluminium.*
(A) Metals (B) Solids
(C) Radiators (D) Conductors

17. *Electricity ------- easily through brass, nichrome and tungsten.*
(A) Flows (B) Passes
(C) Does not flow (D) Does not resist

18. *An unbroken path for the flow of electricity is called a:*
(A) Series circuit (B) Parallel circuit
(C) Complete circuit (D) Open circuit

19. *If the path is incomplete and the current cannot flow the circuit is called:*
(A) An open circuit (B) A parallel circuit
(C) A close circuit (D) A series circuit

20. *A circuit which allows only one path for the flow of electricity is called:*
(A) Parallel circuit (B) Series circuit
(C) Open circuit (D) Close circuit

21. *A circuit which allows several paths for the flow of electricity is called:*
(A) Series circuit (B) Parallel circuit
(C) Open circuit (D) Complete circuit

22. *Magnets made by using electric current are called:*
(A) Magno-electrics (B) Electrodes
(C) Magnetics (D) Electromagnets

23. *An electromagnet loses its magnetism when:*
(A) Current is increased (B) Current is decreased
(C) Current is stopped (D) Current is supplied

24. *------- magnets are used in loud-speakers and electric meters.*
(A) Permanent (B) Electro

(C) Dynamos (D) None of these

25. *When an electromagnet is switched on, there is a current:*

(A) Only in the coil (B) Only in the core

(C) In both the coil and the core (D) In one of them but which it does not matter

ANSWERS

1.	B	2.	A	3.	C	4.	D	5.	B
6.	A	7.	B	8.	A	9.	C	10.	C
11.	B	12.	D	13.	D	14.	A	15.	B
16.	D	17.	C	18.	C	19.	A	20.	B
21.	B	22.	D	23.	C	24.	A	25.	B

10. Earth

- ***Choose the correct answer from the given choices:***

1. *Oceans and seas cover about -------- of the Earth's surface.*

(A) 60 % (B) 70 %

(C) 80 % (D) 90 %

2. *Rocks are of:*

(A) Two types (B) Three types

(C) Four types (D) Five types

3. *When a glacier reaches the sea, large pieces of ice break off from:*

(A) Icebergs (B) Ice

(C) Glaciers (D) Snow

4. *Oceans and seas were formed from water vapours which were released in the atmosphere by:*

(A) Evaporation (B) Transportation

(C) Cooling process (D) Volcanic activities

5. *The taste of sea-water is:*

(A) Salty (B) Sweet

(C) Bitter (D) Normal

6. *Rocks are -------- parts of the Earth's crust.*

(A) Essential (B) Solid

(C) Useless (D) Ancient

7. *Pakistan has -------- mineral resources.*

(A) Few (B) Costly

(C) Rich (D) No

8. *Minerals are chemical:*

(A) Elements (B) Ores

(C) Mixtures (D) Metals

9. *Extrusive and intrusive rocks are:*

(A) Sedimentary rocks (B) Igneous rocks

(C) Metamorphic rocks (D) Natural rocks

10. *The molten material of the Earth is called:*

(A) Crust (B) Clay

(C) Loam (D) Magma

11. *Basalt is common example of:*

(A) Intrusive rocks (B) Sedimentary rocks

(C) Extrusive rocks (D) Metamorphic rocks

12. *Igneous rocks are of:*

(A) Two types (B) Three types

(C) Several types (D) Only one kind

13. *Potash is used for making:*

(A) Cement (B) Iron

(C) Gun-powder (D) Utensils

14. *Granite is a common example of:*

(A) Extrusive rocks (B) Intrusive rocks

(C) Metamorphic rocks (D) Sedimentary rocks

15. *We get pearls from sea animals called:*

(A) Pearl marine (B) Pearl oysters

(C) Pearl crabs (D) Pearl shrimps

16. *Marble is formed from:*

(A) Gypsum (B) Gemstone

(C) Silica (D) Limestone

17. *Gemstone is used for making:*

(A) Utensils (B) Glass

(C) Jewellery (D) Cement

18. *Fuel is a substance which stores:*

(A) Energy (B) Minerals

(C) Power (D) Heat

19. *Remains of plants and animals that lived long ago on our Earth are known as:*

(A) Fossils (B) Rocks

(C) Minerals (D) Fuels

20. *Sand, clay and loam are the main types of:*

(A) Rocks (B) Soil

(C) Minerals (D) Fossils

(a) 5 (b) 4
(c) 2 (d) 3

(32) Cortex consists of many layers of cells. It stores:
(a) Water and air (b) Water and food
(c) Water (d) Food

(33) An atom has 8 electrons, 8 protons and 8 neutrons. What will be its atomic mass?
(a) 8 (b) 16
(c) 24 (d) 32

(34) Isotopes of an element have:
(a) Same physical and chemical properties (b) Different physical and chemical properties
(c) Same physical properties but different chemical properties (d) Different physical properties but same chemical properties

(35) Which metal has been transferred into plutonium?
(a) Uranium (b) Gold
(c) Silicon (d) Iron

(36) In Pacific Ocean near Guam, the depth of Mariana Trench is:
(a) 10,100 metres (b) 10,400 metres
(c) 11,300 metres (d) 11,500 metres

(37) Neon has atomic number 10. The number of electrons in L-shell will be:
(a) 2 (b) 6
(c) 8 (d) 10

(38) The Earth is revolving around the Sun at the speed:
(a) 1,08,000 km per hour (b) 1,50,000 km per hour
(c) 1,68,000 km per hour (d) 1,93,000 km per hour

(39) Most abundantly found element in the Earth's crust is:
(a) Hydrogen (b) Oxygen
(c) Carbon dioxide (d) Nitrogen

(40) Which one is the liquid non-metal of the following?
(a) Phosphorus (b) Mercury
(c) Bromine (d) Iodine

(41) The element which has the greatest quantity in Earth's crust:
(a) Oxygen (b) Potassium
(c) Aluminium (d) Sodium

(42) The metal prepared artificially:
(a) Uranium (b) Plutonium
(c) Aluminium (d) Chromium

(43) Which one is not a metalloid among the following elements:
(a) Silicon (b) Aluminium
(c) Antimony (d) Boron

(44) Metal found in liquid at common temperature:
(a) Sodium (b) Potassium
(c) Mercury (d) Antimony

(45) Which metal exists in liquid form?
(a) Gallium (b) Tin
(c) Gold (d) Potassium

(46) A constituent of fuel used in a spaceship is:
(a) Nitrogen (b) Chlorine
(c) Oxygen (d) Bromine

(47) The gas liberated by plants during daylight is:
(a) Carbon dioxide (b) Oxygen
(c) Sulphur dioxide (d) Hydrogen

(48) Hydrogen gas was discovered by:
(a) Scheele (b) Robert Boyle
(c) Cavendish (d) Van Helmont

(49) The most abundantly found element in the Earth's crust is:
(a) Hydrogen (b) Oxygen
(c) Carbon (d) Aluminium

(50) Percentage of carbon dioxide present in air by volume:
(a) 0.5% (b) 1%
(c) 0.03% (d) 3%

(51) Human brain weight about:
(a) 0.75 kg (b) 1.5 kg
(c) 1.75 kg (d) 2.00 kg

(52) Height of Mount Everest is:
(a) 6,375 metres (b) 7,390 metres
(c) 8,850 metres (d) 9,230 metres

(53) In whose preparation is manganese dioxide as a catalyst:
(a) Hydrogen (b) Carbon dioxide
(c) Nitrogen (d) Oxygen

(54) Which physical state of water do the clouds represent?
(a) Solid (b) Liquid
(c) Gas (d) Vapours

(55) Which method is applied for the removal of suspended impurities?
(a) Boiling (b) Filtration
(c) Aeration (d) Decantation

(56) Compounds which can cause temporary hardness of water are:

(a) Carbonates of calcium and magnesium (b) Bicarbonates of calcium and magnesium
(c) Sulphates of calcium and magnesium (d) Chlorides of calcium and magnesium

(57) Clark's method is applied:

(a) For removal of water pollution (b) For removal of temporary hardness of water
(c) For removal of permanent hardness of water (d) For removal of waterlogging and salinity

(58) Gypsum or calcium sulphate is used:

(a) To remove impurities present in water (b) To remove hardness of water
(c) To eradicate waterlogging (d) To eradicate salinity

(59) Average height of continent is:

(a) 850 metres (b) 950 metres
(c) 1,050 metres (d) 1,150 metres

(60) The height of mercury column in the Barometer at sea-level:

(a) 66 cm (b) 70 cm
(c) 76 cm (d) 80 cm

(61) If driving wheel is larger and driven wheel is smaller, then speed of small wheel:

(a) Decreases (b) Increases
(c) Remains same (d) Zero

(62) What is used in a better way to split timber?

(a) Scissors (b) Iron rod
(c) Hammer (d) Axe

(63) The instrument used to measure air pressure in the tyre of a car is:

(a) Simple barometer (b) Aneroid barometer
(c) Manometer (d) Galvanometer

(64) Which one is different in nature?

(a) Axe (b) Chisel
(c) Ruler (d) Knife

(65) Which non-metal shown metallic lustre?

(a) Sulphur (b) Iodine
(c) Hydrogen (d) Carbon

(66) Which one is 300 times larger than the Earth?

(a) Jupiter (b) Mercury
(c) Venus (d) Uranus

(67) How does heat pass through vacuum?

(a) By conduction (b) By convection
(c) By radiation

(68) Why is the water heating coil placed near bottom of kettle?

(a) Water is a good conductor (b) Hot water rises up
(c) Water is good radiator

(69) From which surface does the heat radiate quickly?

(a) From black surface (b) From red surface
(c) From silver surface

(70) Sun heats the doorknob, Which method of heat transfer contributes to heat the inside doorknob?

(a) By conduction (b) By convection
(c) By radiation

(71) The atomic number of nitrogen in 7 and its atomic mass is 14. The number of neutrons is:

(a) 7 (b) 14
(c) 21 (d) 28

(72) The biggest abyssal plain is probably located in:

(a) Arabian Sea (b) Pacific Ocean
(c) Atlantic Ocean (d) Bay of Bengal

(73) A ray of light passing through the focus after reflection from a concave mirror becomes:

(a) Horizontal (b) Vertical
(c) Parallel

(74) If the object lies at C, then the image formed by the concave mirror will be at:

(a) F (b) C
(c) P

(75) The image formed by a convex mirror is always:

(a) Virtual (b) Real
(c) None of the two

(76) The ray of light passing through the C of concave mirror:

(a) Retraces its path (b) Absorbed in the mirror

(c) Becomes parallel to the principal axis

(77) Which one turns lime water milky, when passed through:
(a) Carbon dioxide (b) Hydrogen
(c) Oxygen (d) Nitrogen

(78) Which one is a metalloid?
(a) Iron (b) Boron
(c) Aluminium (d) Gold

(79) Sound cannot pass through:
(a) Solid (b) Liquid
(c) Gas (d) Vacuum

(80) The speed of sound in air is approximately:
(a) 30 m/sec (b) 330 m/sec
(c) 3300 m/sec (d) 30000 m/sec

(81) Sound travel fastest in:
(a) Iron (b) Water
(c) Air (d) Vacuum

(82) The speed of sound in liquid medium is more than its speed in air:
(a) 2 times (b) 5 times
(c) 10 times (d) 100 times

(83) Nerve cells contain by human brain are:
(a) 10,000,000,000 (b) 1000,000,000
(c) 1,000,000,000 (d) 10,000,000,000,000

(84) How far is the Sun from the Earth?
(a) 50 million km (b) 100 million km
(c) 150 million km (d) 200 million km

(85) Turns blue litmus paper into red:
(a) Carbon dioxide (b) Oxygen
(c) Hydrogen (d) None of these

(86) Energy is provided for the flow of charges in a circuit by a:
(a) Bulb (b) Switch
(c) Electric cell (d) Wire

(87) To avoid short circuiting, we need:
(a) Damaged insulation (b) Overloading
(c) Damp conditions (d) Circuit breaker

(88) To cut off the electricity supply for the whole house, we should use:
(a) Main switch (b) Fuse
(c) Circuit breaker (d) Plug

(89) The cause of blowing a fuse is:
(a) Very thick wire (b) Sub-standard material
(c) Very high melting point (d) Too much heating

(90) Which has one proton, one electron and no neutron?
(a) Carbon (b) Helium
(c) Hydrogen (d) Boron

(91) Magnetic force is more:
(a) Near the poles of the magnet (b) At the middle of the magnet
(c) Away from the magnet (d) Far away from the magnet

(92) If current is passing through a straight wire, then near to it:
(a) A current starts flowing in other objects (b) A coil starts moving
(c) There is no effect on the compass needle (d) Magnetic field is produced

(93) Magnetic lines of force:
(a) Cross one another (b) Enter into the north pole
(c) Are always parallel (d) Are always directed in a straight line

(94) A microphone:
(a) Converts electric current into sound (b) Converts electrical energy into mechanical energy
(c) Converts sound into current vibrations (d) Is a device used to make an electromagnet

(95) Which has maximum number of moons?
(a) Saturn (b) Uranus
(c) Jupiter (d) Venus

(96) How much part of the surface of the Earth contains oceans?
(a) One-third (b) Half
(c) Two-third (d) Three-fourth

(97) What is the name of the maximum sloppy area in the ocean?
(a) Continental shelf (b) Continental slope
(c) Continental floor (d) Abyssal plain

(98) What is the name of the levelled area in the bottom of ocean?
(a) Continental shelf (b) Continental slope
(c) Continental floor (d) Abyssal plain

(99) What is the average maximum depth of the continental shelf?
(a) 50 metre (b) 180 metre
(c) 850 metre (d) 3,500 metre

(100) What is the average depth of ocean?
(a) 180 metre (b) 850 metre
(c) 3,500 metre (d) 3,700 metre

(101) Which one is not a part of flower?
(a) Petal (b) Cotyledon
(c) Stigma (d) Filament

(102) Which is the biggest planet of the Solar System?
(a) Saturn (b) Jupiter
(c) Mars (d) Uranus

(103) Which planet of the Solar System revolves the fastest around its axis?
(a) Saturn (b) Uranus
(c) Jupiter (d) Neptune

(104) What is the colour of Uranus?
(a) Bluish (b) Greenish
(c) Red (d) Yellow

(105) Which is not the main internal part of a stem?
(a) Cortex (b) Epidermis
(c) Mesophyll (d) Vascular bundle

(106) Which are occupies 21% volume of our atmosphere?
(a) Oxygen (b) Carbon dioxide
(c) Nitrogen (d) Hydrogen

(107) Which one is used in the preparation of magnalium?
(a) Iron and Sodium (b) Magnesium and Aluminium
(c) Magnesium (d) Aluminium

(108) Which has no moon?
(a) Mars (b) Saturn
(c) Jupiter (d) Mercury

(109) A leaf has numerous tiny pores in:
(a) Lower epidermis (b) Outside epidermis
(c) Upper epidermis (d) Central epidermis

(110) A speaker:
(a) Converts electrical energy into mechanical energy (b) Is a device used to make an electromagnet
(c) Converts electric current into sound vibrations (d) Converts sound into current

(111) Protium is the isotopes of:
(a) Nitrogen (b) Potassium
(c) Sodium (d) Hydrogen

(112) The diameter of the Earth is:
(a) 12,500 km (b) 12,800 km
(c) 13,400 km (d) 13,900 km

(113) Which is not the main internal part of a leave?
(a) Vascular bundle (b) Epidermis
(c) Cortex (d) Mesophyll

(114) Which one has the largest diameter of all the planets of Solar System?
(a) Mercury (b) Venus
(c) Pluto (d) Jupiter

(115) Human skeleton has:
(a) 206 bons (b) 209 bons
(c) 212 bons (d) 215 bons

(116) Which has the smallest diameter of all the planets of Solar System?
(a) Pluto (b) Jupiter
(c) Venus (d) Mercury

(117) How does heat pass from one end of metallic rod to its other end?
(a) By convection (b) By conduction
(c) By radiation

(118) Which one is used in the preparation of gun powder?
(a) Nitrogen (b) Sulphur
(c) Carbon (d) Hydrogen

(119) Which one has the maximum temperature among all the planets of Solar System?
(a) Pluto (b) Jupiter
(c) Mercury (d) Venus

(120) An atom of an element has seven electrons in its outermost shell. Its valency will be:
(a) 1 (b) 3
(c) 5 (d) 7

(121) Which one has least temperature among all the planets of Solar System?
(a) Earth (b) Neptune
(c) Pluto (d) Jupiter

(122) When one is heavier than air?
(a) Hydrogen (b) Carbon dioxide
(c) Nitrogen (d) Oxygen

(123) An atom has 7 protons and 8 neutrons in it. Its atomic mass is:
(a) 5 (b) 8

(c) 15 (d) 18

(124) Which one has the maximum period of rotation among all the planets of Solar System?

(a) Pluto (b) Jupiter
(c) Mercury (d) Venus

(125) Diamond is an allotropes of:

(a) Carbon (b) Tin
(c) Phosphorous (d) Sulphur

(126) The smallest planet of the Solar System is:

(a) Venus (b) Mercury
(c) Pluto (d) Jupiter

(127) An atom has 6 protons and 7 neutrons in it. Its atomic number is:

(a) 1 (b) 4
(c) 6 (d) 8

(128) Apart from the Earth, which one has only one moon?

(a) Venus (b) Jupiter
(c) Mercury (d) Pluto

(129) The human heart lies under the:

(a) 2^{nd} and 5^{th} rib (b) 2^{nd} and 6^{th} rib
(c) 2^{nd} and 7^{th} rib (d) 2^{nd} and 8^{th} rib

(130) Which one has the least period of rotation among the all planets of Solar System?

(a) Venus (b) Mercury
(c) Pluto (d) Jupiter

(131) Which planet's spin motion is opposite to all other planets of the Solar System?

(a) Pluto (b) Venus
(c) Mercury (d) Jupiter

(132) Hydrogen was discovered in:

(a) 1771 (b) 1774
(c) 1775 (d) 1776

(133) Which one is light?

(a) Nitrogen (b) Carbon dioxide
(c) Oxygen (d) Hydrogen

(134) Which one is the farthest planet to the Sun?

(a) Pluto (b) Saturn
(c) Mercury (d) Jupiter

(135) Oxygen was discovered in:

(a) 1770 (b) 1771
(c) 1772 (d) 1773

(136) Hydrogen was discovered by:

(a) Lavocsier (b) Scheele
(c) Van Helmont (d) Cavendish

(137) Which one has 24 moons?

(a) Saturn (b) Mars
(c) Neptune (d) Uranus

(138) Oxygen was discovered by:

(a) Lavoisier (b) Van Helmont
(c) Scheele (d) Cavendish

(139) Which one is known as the red planet?

(a) Uranus (b) Mars
(c) Neptune (d) Saturn

(140) Carbon dioxide gas was discovered by:

(a) Van Helmont (b) Scheele
(c) Lavoisier (d) Cavendish

ANSWERS

1.	d	2.	a	3.	d	4.	C
5.	a	6.	b	7.	d	8.	D
9.	b	10.	a	11.	c	12.	C
13.	b	14.	d	15.	c	16.	a
17.	b	18.	a	19.	b	20.	a
21.	b	22.	b	23.	d	24.	a
25.	b	26.	d	27.	c	28.	c
29.	b	30.	c	31.	c	32.	b
33.	b	34.	d	35.	a	36.	d
37.	c	38.	a	39.	b	40.	c
41.	c	42.	b	43.	b	44.	c
45.	a	46.	c	47.	b	48.	c
49.	b	50.	c	51.	b	52.	c
53.	d	54.	d	55.	b	56.	b
57.	b	58.	d	59.	a	60.	c
61.	b	62.	d	63.	c	64.	c
65.	b	66.	a	67.	c	68.	b
69.	a	70.	a	71.	a	72.	d
73.	c	74.	c	75.	a	76.	a
77.	a	78.	b	79.	d	80.	B
81.	a	82.	a	83.	d	84.	C
85.	a	86.	c	87.	d	88.	a
89.	d	90.	c	91.	a	92.	d
93.	c	94.	c	95.	a	96.	d
97.	b	98.	d	99.	b	100.	d
101.	b	102.	b	103.	a	104.	b
105.	c	106.	a	107.	b	108.	d
109.	a	110.	c	111.	d	112.	b
113.	c	114.	c	115.	a	116.	d
117.	b	118.	b	119.	d	120.	a
121.	c	122.	b	123.	c	124.	d
125.	a	126.	b	127.	c	128.	d
129.	c	130.	b	131.	b	132.	d
133.	d	134.	a	135.	c	136.	d
137.	a	138.	c	139.	b	140.	a

****